

دہنور کے اعترافات



حق آگیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل (نے) ٹھنا ہی تھا
مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے والے ایک نئے فرقے کی بنیاد
کے متعلق برطانوی جاسوس

ہمفرے کے اعتراضات

عبدالوہاب نجدی کون تھا؟؟؟
عبدالوہاب نجدی کو کس نے عالم اسلام میں فتنہ برپا کرنے پر آمادہ کیا؟؟؟
ایک ایسا واقعہ جو انگریزوں کی ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے !!!
ایک ایسی تحریر جسے جھٹلانا ناممکن ہے !!!
ایک ایسا اعتراف جو حقائق سے پرداہ اٹھاتا ہے !!!
ایک ایسی سازش جس سے ہر مسلمان کا باخبر ہونا ضروری ہے !!!

.....ناشر.....

جملہ حقوق محفوظ ہیں

ہمفرے کے اعترافات	نام کتاب
صاحبزادہ محمد عرفان تو گیر وی	تصحیح
112	صفحات
ایم نعمان اطہر	کپوزنگ
.....	ناشر
.....	قیمت
حقوق پے	

..... ملنے کا پتہ

تمہید

عجمم ہنوز نداندر موزد یں ورنہ

حکم خداوندی کی تعمیل سے انکار پر..... اسے لعنت کا طوق پہنا یا گیا اور پستیوں میں دھکیل دیا گیا..... یہ ابلیس تھا جو کبھی معلم ملائکہ رہا..... لیکن اب ملعون و مردود ہے..... اس کا دعویٰ تھا کہ آدم اس سے بہتر نہیں..... لہذا کیوں ان کی تعظیم کرے..... اس نافرمانی پر مردوار بارگاہ ٹھہر ا تو قسمیں کھانے لگا:..... ”میں ضرور اولاد آدم کو گمراہ کروں گا“..... خالق کائنات نے اولاد آدم کو آگاہ کر دیا کہ اسے دوست بنائے گا..... وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنے گا۔..... چنانچہ ابلیس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی خود ساختہ توحید کے ساتھ کمر بستہ ہو گیا..... کبھی نمرود کی صورت میں صفات آرا ہوا تو کبھی فرعون کی شکل میں معركہ آراء رہا..... ولادت خاتم الانبیاء ﷺ کے موقع پر چلا چلا کر رویا ۳..... پھر ابو جہل کا ہم نواء بن گیا اور ضرورت پڑنے پر ”شیخ نجدی“، بن کر نبی اکرم ﷺ کے خلاف منصوبہ سازی میں شریک ہوا..... مدینہ طیبہ میں عبد اللہ ابن ابی کی حوصلہ افزائی کے علاوہ منافقین کا ساتھ دیتا رہا..... حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بے پناہ ڈرتا..... کیونکہ آپ توحید جبریل کے مقابلے میں توحید ابلیس کا پر چار کرنے والے منافقین کو فنا فی النار کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے..... آخر کار جب اس لعین کو موقع ملا تو یزید بن گیا..... اور کربلا کے میدان میں گلتان بوت پر ”انا خیر منه“ کہتا ہوا ٹوٹ پڑا..... لیکن میرے حسین علیہ السلام..... جو مصطفیٰ کریم ﷺ کی گود میں کھلتے رہے..... جو سردار بوت ﷺ کے شانوں پر سوار رہے..... اور سر تاج رسالت ﷺ کی پشت مبارک پر تشریف فرمائے ہے..... شریعت مصطفوی کی حفاظت کے لیے نبرد آزمائی ہوئے..... اور یزیدیت کو خاک میں ملا دیا..... دنیا والوں نے ”الحسین منی“ کے نظارے دیکھے تھے..... لیکن اب ”انامن الحسین“

کے مناظر دکھائی دیئے تو سامان فطرت حیرت کی دنیا میں گم ہو گیا۔

وقت گزرتا رہا..... مسلمان امن و سکون کے ساتھ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے..... اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اللہ ﷺ کی محبت میں سرشار اہل ایمان حاکم و غالب رہے..... عروج کے یہ مسلسلے ابلیس کو بھلا کب گوارا تھے؟..... میدان کر بلماں میں شکست کھایا ہوا شیطان یزیدیت کے زہر میں بجھ چکا تھا..... چنانچہ ایک مرتبہ پھر ابلیس نے پینترا بدلا اور مسلمانوں کے ایمان پر شب خون مارنے کے لیے سر اٹھانے لگا..... اہل فکر و دانش بھی ہوشیار ہو گئے..... معروف برطانوی جاسوس "ہمفرے" اور فرنگ و ابلیس کی قیادت میں خجد سے اٹھنے والے ایک گروہ نے حریم شریفین پر قبضہ کیا تو انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ لیکن ابلیس کا مشن جاری رہا..... وقت آن پہنچا تھا کہ حکم تعظیم کی نافرمانی پر سزا ملنے کا رد عمل ظاہر کیا جائے..... چنانچہ اس نے اپنے خجدی دوستوں کے ذریعے تعظیم کے ہر اس نشان کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی..... جس کی عظمت مسلمانوں کے ایمان کی بنیاد ہے..... اللہ کے برگزیدہ بندوں اور صالحین کے آثار و مقابر کو ڈھونڈنے ڈھونڈنے کر ختم کیا گیا..... اپنے آبا و اجداد کے بتوں کو بدھ مت کا اور شہزادے کے کرچھوڑنے والوں نے پیکر ان توحید پر حیاء سوز الزمات چپا کیے..... اور اس ابلیسی سہارے کے ذریعے اپنا دائرہ کار پھیلاتے چلے گئے..... برصغیر میں ابلیسی توحید کے جراثیم پہنچنے تو اہل نظر اضطراب میں بنتا ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے بیدار کرنے کی کوشش کی..... چنانچہ اقبال نے ابلیس کے مشن کو ان الفاظ میں بیان کیا۔

وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا

روح محمد ﷺ اُس کے بدن سے نکال دو

فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات

اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو

پھر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا گیا تو ابلیس کے مانے والے یہاں بھی سرگرم عمل رہے..... ورنہ اقبالؒ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی:

عجم ہنوز نداند رموز دیں ورنہ
ز دیوبند حسین احمد ایں چہ بواعجمی است
سرود برسر منبر کہ ملت از وطن است
چہ بے خر ز مقام محمد ﷺ عربی است
بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر بہ او ز سیدی تمام بولیسی است

(یعنی عجمی لوگ دین کی رمزیں ابھی تک نہیں سمجھ پائے ورنہ حسین احمد (دیوبندی) سے یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ برسر منبر وہ کہتا ہے: ”قویں اوطان سے بنتی ہیں“۔ محمد عربی ﷺ کے مقام سے کتنا بے خبر ہے؟ اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم ﷺ تک پہنچا دے کہ دین اسی چیز کا نام ہے اور اگر ان تک نہیں پہنچا تو تمام کی تمام بولیسی ہے۔)

اہل حق غالب رہے اور ابلیس کے حامی ناکام ہو گئے..... لیکن توحید جبریل پر ابلیسی توحید کا حملہ مسلسل جاری ہے..... آئیے! ہم کسی کی طرف نہیں دیکھتے..... لیکن انعام والوں کی راہ ضرور مانگتے ہیں۔ لہذا ان کی پیروی اختیار کیجئے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا انعام ہوا ہے..... جو داتا سُنْح بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں..... جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں..... جو شیخ عبدال قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں..... جو قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں..... جو فیاض عالم حضرت خواجہ غلام رسول تو گیروی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں..... جو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے معروف ہیں اور جو حضرت کرمائیں والے رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں.....

اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اُس نے ہمیں پچ انعام والے عطاوے کیے اور پھر ان کی سُنگت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا۔ لہذا حکم ماننے والے تعظیم کرنے والے اور اطاعت کرنے والے بڑے خوش قسم ہیں کہ انعام والے بن رہے ہیں۔ انہی انعام والوں میں میرے محترم پیر طریقت حاجی انعام اللہ طبی برکاتی دامت برکاتہم العالیہ (خلیفہ مجاز حضرت کرمائیں والے) شامل ہیں۔ جن کا شمار مرشد العصر، شیخ المشائخ بابا حاجی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدیسہ کے محبین انعام یا فتگان میں ہوتا ہے۔ سلسلہ تبلیغ و تربیت میں آپ کا کردار ناقابل فراموش ہے۔

والسلام الی یوم القیام

ملک ثناء اللہ اعوان

ایڈیٹر "محلہ حضرت کرمائیں والا"

۱۱ محرم الحرام ۱۴۲۶ھ، ہجری

سوموار، ۲۱ فروری ۲۰۰۵ء

حوالہ جات

(۱) سورۃ الاعراف: ۱۸

(۲) سورۃ الحج: ۳۰

(۳) روض الانف، از علامہ ابوالقاسم سہیلی، جلد اول، صفحہ ۱۸۱

(۴) زیارات محمد علی ازمولا نا محمد علی جو ہر ص ۳۶، تاریخ نجد و حجاز، ص ۲۳۷

(۵) ضرب کلیم، حکیم الامت، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ص ۱۰۸

(۶) ضرب کلیم، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ص ۱۶۶

(۷) سورۃ الفاتحہ: ۵-۶

(۸) سورۃ توبہ: ۱۱۹

ہمفرے نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ

مدتوں حکومت برطانیہ اپنی عظیم نوآبادیوں کے بارے میں فکر مندر ہی اور اس کی سلطنت کی حدود نے اتنی وسعت اختیار کی کہ اب وہاں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ہندوستان، چین اور مشرق وسطیٰ کے ممالک اور دیگر بے شمار نوآبادیوں کے ہوتے ہوئے بھی جزیرہ برطانیہ بہت چھوٹا دلھائی دیتا تھا۔ حکومت برطانیہ کی سامراجی پالیسی بھی ہر ملک میں یکساں نوعیت کی نہیں ہے۔ بعض ممالک میں عنان حکومت فناہرا اور ہاں کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے لیکن در پرده پورا سامراجی نظام کا فرمایا ہے اور اب اس میں کوئی کسر باقی نہیں ہے کہ وہ ممالک اپنی ظاہری آزادی کھو کر برطانیہ کی گود میں چلے آئیں۔ اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے نوآبادیاتی نظام پر نظر ثانی کریں اور خاص طور سے دو باتوں پر لازمی توجہ دیں۔

(۱) ایسی تدبیر اختیار کریں جو سلطنت کی نوآبادیوں میں اس کے عمل دخل اور قبضے کو مستحکم کریں۔

(۲) ایسے پروگرام مرتب کریں جن سے ان علاقوں پر ہمارا اثر و رسوخ قائم ہو جو ابھی ہماری نوآبادیاتی نظام کو شکار نہیں ہوئے ہیں۔

انگلستان کی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے مذکورہ پروگراموں کو رو یہ عمل لانے کے لیے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ وہ نوآبادیاتی یا شیم نوآبادیاتی علاقوں میں جاسوئی اور حصول اطلاعات کے لیے وفادار و اناہ کرے۔ میں نے نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت میں ملازمت کے شروع ہی سے حسن کار کر دی کا مظاہرہ کیا۔ خاص طور پر ”ایسٹ انڈیا کمپنی“ کے امور کی جانچ پڑاں کے سلسلے میں اچھی کارگردگی نے مجھے وزارت خزانہ میں ایک اچھے عہدے پر فائز کیا۔ یہ کمپنی بظاہر تجارتی نوعیت کی تھی مگر در حقیقت جاسوئی کا اڈا تھا اور اس کے قیام کا مقصد ہندوستان میں ان صورتوں یا ان راستوں کی تلاش تھی جن کے ذریعے اس سر زمین پر مکمل طور پر برطانیہ کا اثر و نفوذ قائم ہو سکے اور مشرق وسطیٰ

پر اس کی گرفت مضمون کی جائے۔

ان دنوں انگلستان کی حکومت ہندوستان سے بڑی مطمئن اور بے فکر تھی کیونکہ قومی، قبائلی اور ثقافتی اختلافات مشرق و سطحی کے رہنے والوں کو اس بات کی فرصت ہی کہاں رہنے دیتے تھے کہ وہ انگلستان کے جائزہ اثر و رسوخ کے خلاف کوئی شورش برپا کر سکیں۔ یہی حال چین کی سرزی میں کا بھی تھا۔ بدھ اور کنفیوشن جیسے مردہ مذاہب کے پیروکاروں کی طرف سے بھی انگریزوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا اور ہندو چین میں کثرت سے باہمی اختلافات کے پیش نظر یہ بات بعید از قیاس تھی کہ وہاں کے رہنے والوں کو اپنی آزادی اور استقلال کی فکر ہو۔ یہی وہ ایک موضوع تھا جو بھی ان کے لیے قابل توجہ نہیں رہا۔ تاہم یہ سوچنا بھی غیر دشمندی ہے کہ آئندہ کے پیش نظر انقلابات بھی ان قوموں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کریں گے۔ پس یہ بات سامنے آئی کہ ایسی مدد ایرا اخیار کی جائیں جن سے ان قوموں میں بیداری کی صلاحیت مفقود ہو جائے۔ یہ مدد ایرا طویل المیعاد پروگراموں کی صورت میں ان سرزی مینوں پر جاری ہوئے جو تمام افتراق، جہالت، بیماری اور غربت کی بنیاد پر استوار تھے۔ ہم نے ان علاقوں کے لوگوں پر ان مصیبتوں اور بد بخیتوں کو وارد کرتے ہوئے بدھ مت کی اس ضرب المثل کو اپنایا جس میں کہا گیا ہے۔

”بیمار کو اس کے حال پر چھوڑ دو اور بھر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دو“

بالآخر وہ دو اپوری کڑواہت کے باوجود پسند کرنے لگے گا۔“

ہم نے باوجود اس کے کہ اپنے دوسرے بیمار یعنی سلطنت عثمانی سے کئی قرار ذادوں پر اپنے فائدہ میں دستخط کر دالیے تھے تاہم نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے ماہرین کا کہنا تھا کہ ایک صدی کے اندر یعنی اس سلطنت کا پله جیٹھے سکتا ہے۔ ہم نے اسی طرح ایران کے زیر اثر سرگرم عمل رہے اور باوجود اس کے نظام کو بگاڑ کر رشتہ ستانی عام کر دی، بادشاہوں کے لیے عیش و عشرت کے سامان فراہم کیے اور اس طرح ان حکومتوں کی بنیادوں

کو کسی حد تک پہلے سے زیادہ متزلزل کیا تا ہم عثمانی اور ایرانی سلطنتوں کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ذیل میں بیان کی جانے والی بعض وجوہات کی بناء پر ہم اپنے حق میں کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے اور وہ اہم ترین وجوہات یہ تھیں۔

(۱) لوگوں میں اسلام کی حقیقی روح کا اثر و نفوذ جس نے انہیں بہادر، بے باک اور پر عزم بنا دیا تھا اور یہ کہنا بے جانہ ہو گا کہ ایک عام مسلمان، مذہبی بنیادوں پر ایک پادری کا ہم پلہ تھا۔ یہ لوگ کسی صورت میں بھی اپنے مذہب سے دستبردار نہیں ہوتے تھے۔ مسلمانوں میں شیعہ مذہب کے پیرہ کار جن کا تعلق ایران کی سر زمین سے ہے، عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے زیادہ مستحکم اور زیادہ خطرناک واقع ہوئے ہیں۔

شیعہ حضرات عیسائیوں کو نجس اور کافر مطلق سمجھتے ہیں ان کے نزدیک ایک عیسائی ایسی متعفن غلاۃت کی حیثیت رکھتا ہے جسے اپنے درمیان سے ہٹانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک شیعہ سے پوچھا:

”تم لوگ نصاریٰ کو حقارت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہو حالانکہ وہ لوگ خدا، رسول اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں؟“

اس نے جواب دیا: ”حضرت محمد ﷺ صاحب علم اور صاحب حکمت پیغمبر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس انداز سے کافروں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ دین اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں۔“

سیاسی میدان میں بھی جب کبھی حکومتوں کو کسی فرد یا گروہ سے کھکا ہوتا ہے تو وہ اپنی حریف پر سختیاں کرتی ہیں اور اسے راستے سے ہٹنے پر مجبور کرتی ہیں تاکہ بالآخر وہ اپنی مخالفتوں سے بازا آجائے اور اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ عیسائیوں کے نجس اور ناپاک ہونے سے مراد ان کی ظاہری ناپاکی نہیں بلکہ باطنی ناپاکی ہے اور یہ بات صرف عیسائیوں ہی تک

محدود نہیں ہے بلکہ اس میں زردشی بھی شامل ہیں جو قومی اعتبار سے ایرانی ہیں، اسلام انہیں بھی ”ناپاک“ سمجھتا ہے۔

میں نے کہا: ”اچھا! مگر عیسائی تو خدا، رسول اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔

اس نے جواب دیا:

”ہمارے پاس انہیں کافر اور نجس گردانے کے لیے دو دلیلیں ہیں پہلی دلیل تو یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ (نعاوذ بالله) محمد ﷺ جھوٹے ہیں۔ ہم بھی ان کے جواب کہتے ہیں کہ تم لوگ ناپاک اور نجس ہو اور یہ تعلق عقل کی بنیاد پر ہے، کیونکہ ”جو تمہیں دکھ پہنچائے تم بھی اسے تکلیف دو“۔

دوسرے یہ کہ عیسائی انبیاء و مسلمین پر جھوٹی تہتیں باندھتے ہیں جو خود ایک بڑا گناہ اور ان کی بے حرمتی ہے مثلًا وہ کہتے ہیں:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام (نعاوذ بالله) شراب پیتے تھے، اس لیے لعنت الٰہی میں گرفتار ہوئے اور انہیں سولی دی گئی“۔

مجھے اس بات پر بڑا تاؤ آیا اور میں نے کہا:

”عیسائی ہرگز ایسا نہیں کہتے“

اس نے کہا:

تم نہیں جانتے ”کتاب مقدس“ میں یہ تمام تہتیں وارد ہیں۔

اس کے بعد اس نے کچھ نہیں کہا اور مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر چہ میں نے سنا تھا کہ بعض افراد نے پیغمبر اسلام پر جھوٹ کی نسبت کی ہے لیکن میں اس سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرا بھائی انہوں نے پھوٹ جائے اور لوگ میری اصلیت سے واقف نہ ہو جائیں۔

(۲) مذہب اسلام تاریخی پس منظروں کی بنیاد پر ایک حریت پسند مذہب ہے اور اسلام کے سچے پیروکار آسانی کے ساتھ غلامی قبول نہیں کرتے۔ ان کے پورے وجود میں

گزشتہ عظمتوں کا غور سایا ہوا ہے یہاں تک کہ اپنے اس ناتوانی اور پر فتو دور میں بھی وہ اس سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں ہیں۔ ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ تاریخ اسلام کی من مانی تفسیر پیش کر کے انہیں یہ بتائیں کہ تمہاری گزشتہ عظمتوں کی کامیابی ان حالات پر منحصر تھی جو اس زمانے کا تقاضا تھا مگر اب زمانہ بدل چکا ہے اور نئے تقاضوں نے ان کی جگہ لے لی ہے اور اب گزشتہ دور میں واپسی ناممکن ہے۔

(۳) ہم ایرانی اور عثمانی حکومتوں کی دورانِ یشویوں ہوشیاریوں اور کارروائیوں سے محفوظ نہیں تھے اور ہر آن یہ کھکار ہتا تھا کہ کہیں وہ ہماری سامرائی پالیسی سے باخبر ہو کر ہمارے کیے دھرے پر پانی نہ پھیردیں۔ یہ دونوں حکومتیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے بہت کمزور ہو چکی تھیں اور ان کا اثر و رسوخ صرف اپنی سر زمین کی حد تک محدود تھا۔ وہ صرف اپنے ہی علاقے میں ہمارے خلاف اسلحہ اور پیسہ جمع کر سکتے تھے تا ہم ان کی بدگمانی ہماری آئندہ کامیابیوں کے لیے عدم اطمینان کا سبب تھی۔

(۴) مسلمان علماء بھی ہماری تشویش کا باعث تھے۔ جامعہ الازہر کے مفتی اور ایران و عراق کے شیعہ مراجع ہمارے سامرائی مقاصد کی راہ میں ایک عظیم رکاوٹ تھے۔ یہ علماء جدید علم و تمدن اور نئے حالات سے یکسر بے خبر تھے اور ان کی تنہا توجہ اس جنت کے لیے تھی جس کا وعدہ قرآن نے انہیں دے رکھا تھا۔ یہ لوگ اس قدر متعصب تھے کہ اپنے موقف سے ایک انج چیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ بادشاہ اور امراء سمیت تمام افراد ان کے آگے چھوٹے تھے۔ نہ سنت حضرات شیعوں کی نسبت اپنے علماء سے اس قدر خوفزدہ نہیں تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں بادشاہ اور شیخ الاسلام کے درمیان ہمیشہ خوشنگوار تعلقات برقرار رہے تھے اور علماء کا احترام کرتے تھے۔ مذہبی علماء سے ان کا گاؤ ایک حقیقی لگاؤ تھا لیکن حکام یا سلاطین کو وہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بہر حال سلاطین اور علماء کی قدر دانی سے متعلق شیعہ اور سنی نظریات کا یہ فرق نہ آبادیاتی علاقوں کی وزارت اور انگریزی حکومت کی شورش میں کمی کا باعث نہیں تھا۔

ہم نے کئی بار ان ممالک کے ساتھ آپس کی پیچیدہ دشواریوں کو دور کرنے کے سلسلے میں گفتگو کی لیکن ہمیشہ ہماری گفتگو نے بدگمانی کی صورت اختیار کی اور ہم نے اپنا راستہ بند پایا۔ ہمارے جاسوسوں اور سیاسی کارکنوں کی درخواستیں بھی سابقہ مذاکرات کی طرح بری طرح ناکام رہیں لیکن پھر بھی ہم ناامید نہیں ہوئے کیونکہ ہم ایک مضبوط اور بر شکیب قلب کے مالک ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ نوآبادیاتی علاقوں کے وزیر نے لندن کے ایک مشہور پادری اور ۲۵ دیگر مذہبی سربراہوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا جو پورے تین گھنٹے تک جاری رہا اور جب یہاں بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہو سکا تو پادری نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا:

”آپ لوگ اپنی ہمتیں پست نہ کریں، صبر اور حوصلہ سے کام لیں، عیسائیت تین سو سال کی زحمتوں اور دربداری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کی شہادت کے بعد غالیگر ہوئی، ممکن ہے آئندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر عنایت ہم پر ہو اور ہم تین سو سال بعد کافروں کو نکالنے میں کامیاب ہوں۔ آپ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو محکم ایمان اور پائیدار صبر سے مزین کریں اور ان تمام وسائل کو بروئے کار لائیں جو مسلمان خطوں میں عیسائیت کی ترویج کا سبب ہوں۔ اور اس میں ہمیں صدیوں کا عرصہ بھی گزر جائے تو گھبرا نے کی کوئی بات نہیں، آباً اجاداً اپنی اولاد کے لیے بحبوث ہے۔“

ایک دفعہ پھر نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت میں روس، فرانس اور برطانیہ کے اعلیٰ نمائندوں پر بنی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ کانفرنس کے شرکاء میں سیاسی وفود، مذہبی شخصیتیں اور دیگر مشہور ہستیاں شامل تھیں۔ حسن اتفاق سے میں بھی وزیر سے قریبی تعلقات کی بنا پر اس کانفرنس میں شریک تھا۔ موضوع گفتگو اسلامی ممالک میں سامراجی نظام کی ترویج اور اس میں پیش آنے والی دشواریاں تھا۔

شرکاء کا غور و فکر اس بات میں تھا کہ ہم کس طرح مسلم طاقتوں کو درہم برہم کر سکتے ہیں اور ان کے درمیان نفاق کا نفع ہو سکتے ہیں۔ گفتگو ان کے ایمان کے تزلزل کے سب سے میں تھی۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اسی طرح راہ راست پر لا یا جا سکتا ہے جس طرح اپینے صدیوں کے بعد عیسائیوں کی آغوش میں چلا آیا تھا۔ کیا یہ وہی ملک نہیں تھا جسے دشمن مسلمانوں نے فتح کیا تھا؟ کافرنز کے نتائج زیادہ واضح نہیں تھے۔ میں نے اس کافرنز میں پیش آنے والے تمام واقعات کو اپنی کتاب ”عظیم مسح کی سمت ایک پرواز“ میں بیان کر دیا ہے۔

حقیقتاً مشرق سے مغرب تک پھیلا و رکھنے والے عظیم اور تناور درخت کی جڑوں کو کائناتنا آسان کام نہیں۔ پھر بھی ہمیں ہر قیمت پر ان دشواریوں کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ عیسائی مذہب اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب ساری دنیا اس کے قبضہ میں آجائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پچھے پیر و کاروں کو اس جهانگیری کی بشارت دی ہے۔ حضرت محمد ﷺ کی کامیابی ان اجتماعی اور تاریخی حالات سے وابستہ تھی جو اس دور کا تقاضا تھا۔ ایران و روم سے وابستہ مشرق و مغرب کی سلطنتوں کا انحطاط دراصل بہت کم عرصے میں حضرت محمد ﷺ کی کامیابی کا سبب بنا۔ مسلمانوں نے ان عظیم سلطنتوں کو زیر کیا، مگر اب حالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں اور اسلامی ممالک بڑی تیزی سے رو بہ زوال ہیں اور اس کے مقابلے میں عیسائی روز بروز ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اب وہ وقت آگیا ہے کہ عیسائی مسلمانوں سے اپنا بدلہ چکا میں اور اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کریں۔ اس وقت سب سے بڑی عیسائی حکومت عظیم برطانیہ کے ہاتھ میں ہے جو دنیا کے طول و عرض میں اپنا سکھ جمائے ہوئے ہے اور اب چاہتا ہے کہ اسلامی مملکتوں سے نبرد آزمائی کا پرچم بھی اسی کے ہاتھ میں ہو۔

..... شاکاء میں انگلستان کی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے مجھے مصر، عراق، ایران، ججاز اور ان کے مرکز اتنبول (آج کا اتنبول اس وقت کا قسطنطینیہ تھا) کی جاسوسی پر

مامور کیا۔ مجھے ان علاقوں میں وہ راہیں تلاش کرنی تھیں جن سے مسلمانوں کو درہم برہم کر کے مسلم ممالک میں سامراجی نظام رائج کیا جاسکے۔ میرے ساتھ نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت کے نو اور بہترین تجربہ کار جاؤں اسلامی ممالک میں اس کام پر مامور تھے اور بڑی تندھی سے انگریز سامراجی نظام کے تسلط اور نو آبادیاتی علاقوں میں اپنے اثر نفوذ کے استحکام کے لیے سرگرم عمل تھی۔ ان وفود کو وافر مقدار میں سرمایہ فراہم کیا گیا تھا۔ یہ لوگ بڑے مرتب شدہ نقشے اور بالکل نئی اور تازہ اطلاعات سے بہرہ مند تھے۔ ان لواء، وزراء، حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں اور علماء و روّسакے ناموں کی مکمل فہرست دی گئی تھی۔ نو آبادیاتی علاقوں کے معاون وزیر نے ہمیں روانہ کرتے ہوئے خدا حافظی کے وقت جوبات کہی، وہ آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اس نے کہا تھا:

”تمہاری کامیابی ہمارے ملک کے مستقبل کی آئینہ دار ہو گی لہذا اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لاوتا کہ کامیابی تمہارے قدم چوئے۔“

میں خوشی خوشی بھری جہاز کے ذریعے اتنبول کے لیے روانہ ہوا۔ میرے ذمے اب دواہم کام تھے۔ پہلے ترکی زبان پر عبور حاصل کرنا جوان دنوں وہاں کی قومی زبان تھی۔ میں نے لندن میں ترکی زبان کے چند الفاظ سیکھ لیے تھے۔ اس کے بعد مجھے عربی زبان، قرآن، اس کی تفسیر اور پھر فارسی سیکھنا تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی زبان کو سیکھنا اور ادبی قواعد، فصاحت اور مہارت کے اعتبار سے اس پر پوری دسترس رکھنا و مختلف چیزیں ہیں۔ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ میں ان زبانوں میں ایسی مہارت حاصل کروں کہ مجھ میں اور وہاں کے لوگوں میں زبان کے اعتبار سے کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ کسی زبان کو ایک دو سال میں دیکھا جاتا ہے لیکن اس پر عبور حاصل کرنے کے لیے برسوں کا وقت درکار ہوتا ہے۔ میں اس بات پر مجبور تھا کہ ان غیر ملکی زبانوں کو اس طرح سیکھوں کہ اس کے قواعد و رموز کا کوئی نقطہ فروگذ اشت نہ ہو اور کوئی میرے ترک، ایرانی یا عرب ہونے پر مشک نہ کرے۔

ان تمام مشکلات کے باوجود میں اپنی کامیابی کے سلسلے میں ہر اساح نہیں تھا کیونکہ میں مسلمانوں کی طبیعت سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ ان کی کشادہ قلبی، حسن ظن اور مہماں نواز طبیعت جو انہیں قرآن و سنت سے درست میں ملی تھی انہیں عیسائیوں کی طرح بدگمانی اور بد بینی پر محمول نہیں کرے گی اور پھر دوسری طرف سے عثمانی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ اب اس کے پاس انگلستان اور غیر ملکی جاسوسوں کی کارروائیاں معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور ایسا کوئی ادارہ موجود نہیں تھا جو حکومت کو ان نامطلوب عناصر سے باخبر رکھ سکے۔ فرمایا اور اس کے مصالحین پورے طور پر کمزور ہو چکے تھے۔

کئی مہینے کے تھکا دینے والی سفر کے بعد آخر کارہم عثمانی دار الخلافہ میں پہنچے۔ جہاز سے اترنے سے پہلے میں نے اپنے لیے "محمد" کا نام تجویز کیا اور جب میں شہر کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو وہاں لوگوں کے اجتماعات، نظم و ضبط اور صفائی سترہائی دیکھ کر خوش ہوا اور دل ہی دل میں کہا: آخر کیوں ہم ان پاک دل افراد کے آزار کے درپے ہیں؟ اور کیوں ان سے ان کی آسائش چھیننے پر تلمے ہوئے ہیں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کے ناشائستہ امور کی تجویز دی تھی؟ لیکن فوراً ہی میں نے اس شیطانی وسوسوں اور باطل خیالات کو ذہن سے جھٹک کر استغفار کیا اور مجھے خیال آیا کہ میں تو برطانیہ عظمیٰ کی نوا آبادیا تی وزارت کا ملازم ہوں اور مجھے اپنی فرائض دیانتداری سے انجام دینے چاہئیں اور منہ سے لگائے ہوئے ساغر کو آخری گھونٹ تک پی جانا ہے۔

شہر میں داخلہ کے فوراً بعد ہی میری ملاقات اہل تسلیم کی ایک بوڑھے پیشوائے ہوئی۔ اس کا نام احمد آفندی تھا وہ ایک برجستہ، صاحب فضل اور نیک طینت عالم تھا۔ میں نے اپنے پادریوں میں ایسی بزرگ ہستی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دن رات عبادت میں مشغول رہتا تھا اور بزرگی اور برتری میں حضرت محمد ﷺ کی مانند تھا۔ وہ رسول خدا کو انسانیت کا مظہر کامل سمجھتا تھا اور آپ کی سنت کو اپنی زندگی کا مطعم نظر بنائے ہوئے تھا۔ حضرت محمد ﷺ

کا نام آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی تھی۔ شیخ کے ساتھ ملاقات میں میری ایک خوش نصیبی یہ بھی تھی کہ اس نے مجھ سے ایک دفعہ بھی میرے حسب نسب اور خاندان کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا اور ہمیشہ مجھے محمد آفندی کے نام سے پکارتا تھا۔ جو کچھ بھی میں اس سے پوچھتا تھا، بڑے وقار اور شرافت سے جواب دیتا تھا اور مجھے بہت چاہتا تھا۔ خاص طور پر جب اسے معلوم ہوا کہ کہ میں غریب الوطن ہوں اور اس عثمانی سلطنت کے لیے کارکرہا ہوں جو پیغمبر کی جائشیں ہے تو مجھ پر اور بھی مہربان ہو گیا (یہ جھوٹ تھا جو میں نے استنبول میں اپنے قیام کی توجیہہ بیان کرتے ہوئے شیخ کے سامنے بولا تھا)

اس کے علاوہ میں نے شیخ سے یہ بھی کہا تھا کہ میں بن ماں باپ کا ایک نوجوان ہوں، میرے بہن بھائی نہیں ہیں۔ میں بالکل اکیلا ہوں لیکن میرے والدین نے ورثہ میں میرے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ قرآن اور ترکی اور عربی زبان سیکھنے کے لیے اسلام کے مرکز یعنی استنبول کا سفر اختیار کروں اور پھر دینی اور معنوی سرمایہ کے حصول کے بعد مادی کاروبار میں پیسہ لگاؤں۔ شیخ احمد نے مجھے مبارکباد دی اور چند باتیں کہیں جنہیں میں اپنی نوٹ بک سے یہاں نقل کر رہا ہوں۔
اے نوجوان! مجھ پر تمہاری پذیرائی اور احترام کئی وجہات کی بنابر لازم ہے اور وہ

وجہات یہ ہیں:

(۱) تم ایک مسلمان ہو اور مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
(إنما المؤمنون إخوة)

(۲) تم ہمارے شہر میں مہمان ہو اور پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے: (أَكْرِمُ الْضَّيْفِ)
مہمان کو محترم جانو۔

(۳) تم طالب علم ہو اور اسلام نے طالب علم کے احترام کا حکم دیا ہے تم حلال روزی کمانا چاہتے ہو اور اس پر (الْكَامِبْ حَبِيبُ اللَّهِ) کا روبار کرنے والا اللہ کا دوست ہے کی حدیث صادق آتی ہے۔

اس پہلی ملاقات ہی میں شیخ نے اعلیٰ خصال کی بنیاد پر مجھے اپنا گرویدہ بنالیا تھا۔ میں نے اپنے دل میں تھا: کاش! نیسا سیت بھی ان آشکار حقیقوں سے آشنا ہوتی لیکن دوسری طرف میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسلامی شریعت اتنی بلند نگاہی اور بلند مقامی کے باوجود رو بے زوال ہو رہی تھی اور اسلامی حکمرانوں کی نالائقی، ظلم و ستم، بد اطواری اور پھر علمائے دین کا تعصب اور دنیا کے حالات سے انکی بے خبری انہیں یہ دن دکھار رہی تھی۔ میں نے شیخ سے کہا:

”اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ سے عربی زبان اور قرآن مجید سیئھنے کا خواہش مند ہوں۔“

شیخ نے میری ہمت افزائی کی اور میری خواہش کا استقبال کیا اور سورہ حمد کو میرے لیے پہلا سبق قرار دیا اور بڑی گر مجھی کے ساتھ آتیوں کی تفسیر و تاویل پیش کی۔ میرے لیے بہت سے عربی الفاظ کے تلفظ دشوار تھے اور کبھی یہ دشواری بہت بڑھ جاتی تھی۔ وہ بار بار مجھ سے کہتا تھا میں عربی عبارت اس طرح تمہیں نہیں سکھاؤں گا تمہیں ہر مشکل لفظ کو دس مرتبہ تکرار کرنا ہو گا تاکہ الفاظ تمہارے ذہن نشین ہو جائیں۔

شیخ نے مجھے حروف کو ایک دوسرے سے ملانے کے طریقے سکھائے۔ مجھے قرآن کی تجوید و تفسیر سیئھنے میں دوسال کا عرصہ لگا۔ درس شروع کرنے سے پہلے وہ خود بھی وضو کرتا تھا اور مجھے بھی وضو کرنے کا حکم دیتا تھا۔ پھر ہم قبلہ رخ بیٹھ جاتے تھے اور درس کا آغاز ہوتا تھا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اسلام میں اعضاء کو ایک خاص ترتیب سے دھونے کا نام وضو ہے۔ ابتداء میں منہ دھویا جاتا ہے۔ پھر پہلے سیدھے باتھ کو انگلیوں اور بعد میں ائمہ باتھ سے کہنی تک دھویا جاتا ہے۔ اس کے بعد سر، گردن اور کانوں کے پچھلے حصہ کا سچ کیا جاتا ہے اور آخر میں پیر دھوئے جاتے ہیں۔

وضو کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا مستحب ہے۔ آداب و فضوسی پہلے ایک خشک لکڑی سے دانتوں کا مسوک جو وہاں کی رسم تھی میرے لیے بہت ناگوار تھی

اور میں سمجھتا تھا کہ یہ خشک لکڑی دانتوں اور مسوز ہوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ کبھی کبھی میرے مسوز ہوں سے خون بھی جاری ہو جاتا تھا مگر میں ایسا کرنے پر مجبور تھا کیونکہ وضو سے پہلے مسوک کرنا سنت مؤکدہ بیان کیا گیا تھا اور اس کے لیے بہت ثواب اور فضیلت بیان کی گئی تھی۔

میں استنبول میں قیام کے دوران راتوں کو ایک مسجد میں سورہ تھا اور اس کے عوض وہاں کے خادم کو جس کا نام مروان آفندی تھا کچھ رقم دے دیتا تھا۔ وہ ایک بد اخلاق، غصہ و رخص تھا اور اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کے ایک صحابی کا ہم نام سمجھتا تھا اور اس نام پر بڑا فخر کرتا تھا۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا:

”اگر کبھی خدا نے تمہیں صاحب اولاد کیا تو تم اپنی بیٹی کا نام مروان رکھنا کیونکہ اس کا شمار اسلام کے عظیم مجاہدوں میں ہوتا ہے۔“

رات کا کھانا میں خادم کے ساتھ کھاتا تھا اور جمعہ کا تمام دن جو مسلمانوں کی عید اور چھٹی کا دن تھا خادم کے ساتھ گزارتا تھا۔ ہفتے کے باقی دن ایک بڑھی کی شاگردی میں کام کرتا تھا اور وہاں سے مجھے ایک حیرتی رقم مل جایا کرتی تھی۔ اس بڑھی کا نام خالد تھا۔ دو پھر کو کھانے کے وقت وہ ہمیشہ فاتح اسلام ”خالد بن ولید“ کا تذکرہ کرتا تھا اور اس کے فضائل بیان کرتا تھا اور اسے اصحاب پیغمبر میں گردانتا تھا جن کے ہاتھوں مخالفین اسلام نے ہزیست انھائی۔ ہر چند حضرت عمر سے اس کے تعلقات کچھ زیادہ استوار نہ تھے اور اسے یہ کہتا تھا کہ اگر خلافت انہیں ملی تو وہ اسے معزول کر دیں گے اور ایسا ہی ہوا۔

لیکن خالد بڑھی اچھے کردار کا حامل نہ تھا تاہم اپنی دیگر شاگردوں سے کچھ زیادہ ہی مجھ پر مہربان تھا جس کا سبب مجھے اب تک معلوم نہ ہوا کہ اس لیے کہ میں بغیریت و لعل کے اس کے ہر کام کو بجالاتا تھا اور اس سے مذہبی امور یا اپنے کام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرتا تھا۔ کئی بار دکان خالی ہونے پر میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے اچھی

نظروری سے نہیں دیکھ رہا ہے۔ شیخ احمد نے مجھ سے کہا تھا کہ بد فعلی اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن پھر بھی خالد اس فعل کے ارتکاب پر مصروف تھا۔

وہ دین و دیانت کا زیادہ پابند نہیں تھا اور درحقیقت صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کا آدمی نہیں تھا۔ وہ صرف جمعہ کے جمعہ نماز پڑھنے جایا کرتا تھا اور باقی دنوں میں اس کا نماز پڑھنا مجھ پر ثابت نہیں تھا۔ بہر حال میں نے اس بے سرمانہ تر غیب کو رد کیا لیکن کچھ دنوں کے بعد اس نے یہ فعل اپنی دوکان کے ایک دوسرے کارگر کے ساتھ انعام دیا جو ابھی نو مسلم تھا اور یہودیت سے اسلام میں وارد ہوا تھا۔

میں روزانہ بڑھی کی دکان میں دوپہر کا کھانا کھا کر نماز کے لیے مسجد میں چلا جایا کرتا تھا اور وہاں نماز عصر تک رہتا تھا۔ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر شیخ احمد کے گھر جایا کرتا تھا۔ اور وہاں دو گھنٹے قرآن خوانی میں صرف کرتا تھا۔ قرآن کے علاوہ عربی اور ترکی زبان بھی سیکھتا تھا۔ اور ہر جمعہ کو ہفتہ بھر کی دھاڑی زکوٰۃ کے عنوان سے شیخ احمد کے حوالے کرتا تھا اور یہ زکوٰۃ درحقیقت شیخ سے میری ارادت اور لگاؤ کا ایک نذرانہ اور شیخ کے درس قرآن کا ایک حصیر ساحق الذمہ تھا۔ قرآن کی تعلیم میں شیخ کا طرز درس بے نظیر نوعیت کا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مجھے اسلامی احکام کی مبادیات عربی اور ترکی زبان میں سکھاتا تھا۔

جب شیخ احمد کو معلوم ہوا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں تو اس نے مجھے شادی کا مشورہ دیا اور اپنی ایک بیٹی میرے لیے منتخب کی لیکن میں نے بڑے مُؤدبانہ انداز سے معدورت چاہی اور اپنے آپ کو شادی کے لیے ناقابل ظاہر کیا۔ میں یہ موقف اختیار کرنے پر مجبور تھا کیونکہ شیخ احمد اپنی بات پر مصروف تھا اور ہمارے تعلقات بگڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی تھی۔ شیخ احمد شادی کو پیغمبر اسلام کی سنت سمجھتا تھا اور اس حدیث کا حوالہ دیتا تھا۔

”جو کوئی میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہے“

(مَنْ رَاغَبَ عَنْ سُنْتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ)

لہذا اس بہانہ کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میرے اس مصلحت آمیز جھوٹ نے شیخ کو مطمئن کر دیا اور پھر اس نے شادی کے متعلق کوئی گفتگو نہیں کی اور ہماری دوستی پھر پہلی منزل پر آگئی۔ دوسال استنبول میں رہنے اور قرآن سمیت عربی اور ترکی زبانوں کو سیکھنے کے بعد میں نے شیخ سے واپس وطن جانے کی اجازت چاہی لیکن شیخ مجھے اجازت نہیں دیتا تھا اور کہتا تھا تم اتنی جلدی کیوں واپس جانا چاہتے ہو؟ یہ ایک بڑا شہر ہے۔ یہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ بر بنائے مشیت الہی استنبول میں دین اور دنیا دونوں دستیاب ہیں۔ شیخ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا:

”اب جبکہ تم اکیلے ہو اور تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی کوئی نہیں تو پھر تم استنبول کو اپنا مسکن کیوں نہیں بناتے؟“

بہر حال شیخ کو میرے وہاں رہنے پر بڑا اصرار تھا۔ اسے مجھ سے انس ہو گیا تھا۔ مجھے بھی اس سے بہت دلچسپی تھی مگر اپنے وطن انگلستان کے بارے میں مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد تھیں وہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھیں اور مجھے لندن جانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ میرے لیے ضرور تھا کہ میں لندن جا کر نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کو اپنی دوسالہ کارگزاری کی مکمل رپورٹ پیش کروں اور وہاں سے نئے احکامات حاصل کروں۔ استنبول میں دوسال کی رہائش کے دوران مجھے عثمانی حکومت کے حالات پر ہر ماہ ایک رپورٹ لندن بھیجنی پڑتی تھی۔ میں نے اپنی ایک رپورٹ میں بدکردار بڑھتی کے اس واقعے کو بھی لکھا تھا جو میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے مجھے یہ حکم دیا، اگر تمہارے ساتھ بڑھتی کا یہ فعل ہمارے لیے منزل مقصود تک پہنچنے کی راہ کو آسان بنانا ہے تو اس کام میں کوئی مضائقہ نہیں۔ میں نے جب یہ عبارت پڑھی تو میرا سر چکرانے لگا اور میں نے سوچا ہمارے افران کو شرم نہیں آتی کہ وہ حکومت کی مصلحتوں کی خاطر مجھے اس بے شرمی کی ترغیب دیتے ہیں۔ بہر حال میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور ہوتوں سے لگائے ہوئے

اس کڑوے جام کو آخری گھونٹ تک پی جانا تھا۔ تاہم میں نے اس حکم کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور لندن کے اعلیٰ عہدیداروں کی اس بے مہری کی کسی سے شکایت نہیں کی۔ مجھے الوداع کہتے ہوئے شیخ کی آنکھوں میں آنسو بھرا ہے اور اس نے مجھے ان الفاظ کے ساتھ رخصت کیا۔

”خدا حافظ بیٹے! مجھے معلوم ہے اب جب تم لوٹ کر آؤ گے تو مجھے اس دنیا میں نہیں پاؤ گے مجھے نہ بھلانا۔ انشاء اللہ روزِ محشر پغمبر اسلام کے حضور ہم ایک دوسرے سے ملیں گے۔“

درحقیقت شیخ احمد کی جدائی سے میں ایک عرصہ تک آزردہ خاطر رہا اور اس کے غم میں میری آنکھیں آنسو بھاتی رہیں لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ فرائض کی انجام دہی ذاتی احساسات سے ماوراء ہے۔

میرے دیگر ساتھیوں کو بھی لندن واپس بلا لیا گیا تھا مگر بدستمی سے ان میں سے صرف پانچ واپس لوٹے باقی ماندہ چار افراد میں سے ایک مسلمان ہو چکا تھا اور وہیں مصر میں رہائش پذیر تھا۔ اس واقعہ کا نوا آبادیاتی علاقوں کی وزارت کے سیکرٹری نے مجھے بتایا لیکن وہ اس بات سے خوش تھا کہ مذکورہ شخص نے ان کے کسی راز کو افشاء نہیں کیا تھا۔ دوسرا جاؤں روی نشاد تھا اور روں پہنچ کر اس نے وہیں بودو باش اختیار کر لی تھی۔ سیکرٹری اس کے بارے میں بڑا فکر مند تھا۔ اسے کھٹکا تھا کہ کہیں یہ روی نشاد جاؤں جواب اپنی سرزی میں میں پہنچ چکا تھا ہمارے راز فاش نہ کر دے۔ تیرا شخص بغداد کے قریب واقع ”عمارة“ میں ہیضہ سے ہلاک ہو گیا تھا اور چوتھے کے بارے میں کوئی اطلاع موصول نہ ہو سکتی تھی۔ نوا آبادیاتی علاقوں کی وزارت کو اس کے بارے میں اس وقت تک اطلاع رہی جب تک وہ یمن کے پایہ تخت ”صنعاء“ میں رہتے ہوئے مسلسل ایک سال تک اپنی رپورٹیں مذکورہ وزارت کو بھیجتا رہا لیکن اس کے بعد جب کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تو ہر چند کوشش کے باوجود نوا آبادیاتی علاقوں کی وزارت کو اس جاؤں کا کوئی نشان نہ مل سکا۔ حکومت ایک زبردست جاؤں کی گمshedگی کے نتائج سے اچھی طرح باخبر تھی۔ وہ ہر ملازم کے کام کی اہمیت کو بڑی باریکی کے

ساتھ جا پختی تھی اور درحقیقت اس طرح کے ملازمین میں سے کسی ملازم کی گمشدگی کی اس سامراجی حکومت کے لیے تشویشناک تھی جو اسلامی ممالک میں غدر مچانے اور انہیں زیر کرنے کی ایکیموں کی تیاری میں مصروف ہو۔

ہمارا تعلق ایک ایسی قوم سے ہے جو آبادی کے اعتبار سے کم ہونے کے ساتھ بڑی اہم ذمہ داریوں کا بوجھہ سہار رہی ہے اور تجربہ کار افراد کی کمی یقیناً ہمارے لیے شدید نقصان کا باعث تھی۔

سیکرٹری نے میرے آخری رپورٹ کے اہم حصوں کے مطالعہ کے بعد مجھے اس کانفرنس میں شرکت کی ہدایت کی جس میں لندن بلائے گئے پانچ جاسوسوں کی رپورٹیں سنی جانے والی تھیں۔ اس کانفرنس میں جو وزیر خارجہ کی صدارت میں ہو رہی تھی نوآبادیاتی وزارت کے اعلیٰ عہدہ دار شرکت کر رہے تھے۔ میرے تمام ساتھیوں نے اپنی رپورٹوں کے اہم حصوں کو پڑھ کر سنایا۔ وزیر خزانہ، نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے سیکرٹری اور بعض حاضرین نے میری رپورٹ کو بڑا سراہا۔ تاہم میں اس محاسبہ میں تیرے نمبر پر تھا۔ دو اور جاسوسوں نے مجھ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا جن میں پہلا جی بلکوڈ (G.BELCOUD) اور دوسرا ہنری فانس (HENRY FANSE) تھا۔

یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں نے ترکی، عربی، تجوید قرآن اور اسلامی شریعت میں سب سے زیادہ دسترس حاصل کی تھی لیکن عثمانی حکومت کے زوال کے سلسلے میں میری رپورٹ زیادہ کامیاب نہیں تھی۔ جب سیکرٹری نے کانفرنس کے اختتام پر میری اس کمزوری کا ذکر کیا تو میں نے کہا:

ان دو سالوں میں میرے لیے .. زبانوں کا سیکھنا، تفسیر قرآن اور اسلامی شریعت سے آشنائی زیادہ اہمیت کی حامل تھی اور دوسرے امور پر توجہ دینے کے لیے میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ اگر آپ بھروسہ کریں تو میں یہ کسر آئندہ سفر میں پوری

کر دوں گا۔ سیکرٹری نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اپنے کام میں کامیاب رہے ہو لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تم اس راہ میں دوسروں سے بازی لے جاؤ۔ آئندہ کے لیے تمہیں دواہم باتوں کا خیال رکھنا ہے:

(۱) مسلمانوں کی ان کمزوریوں کی نشاندہی کرو جو تمہیں ان تک پہنچنے اور ان کے مختلف گروہوں کے درمیان بھوث ڈالنے میں کامیابی فراہم کرے کیونکہ دشمن پر ہماری کامیابی کا راز ان مسائل کی شناخت پر منحصر ہے۔

(۲) ان کی کمزوریاں جان لینے کے بعد تمہارا دوسرا کام ان میں بھوث ڈالنا ہے۔ اس کام میں پوری قوت صرف کرنے کے بعد تمہیں یہ اطمینان ہو جانا چاہیے کہ تمہارا شمار صفائول کے انگریز جاسوسوں میں ہونے لگا ہے اور تم اعزازی نشان کے حقدار ہو گئے ہو۔ چھ ماں لندن میں قیام کے بعد میں نے اپنے چچا کی بیٹی ”میری شوری“ سے شادی کر لی جو مجھ سے ایک سال بڑی تھی۔ اس وقت میں ۲۲ اور وہ ۲۳ سال کی تھی۔ ”میری ایک درمیانہ درجے کی ذہین لڑکی تھی لیکن بڑے دلکش خدو خال کی مالک تھی۔ میری بیوی کا مجھ سے متوازن سلوک تھا اور میں نے اپنی زندگی کے بہترین دن اس کے ساتھ گزارے۔ شادی کے پہلے سال ہی میری بیوی امید سے تھی اور میں نے مہمان کا بے چینی سے منتظر تھا لیکن ایسے موقع پر مجھے وزارت خانہ سے یہ حتیٰ حکم موصول ہوا کہ میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً عراق پہنچوں جو برسہا برس سے عثمانی خلافت کی زیر استحصال تھا۔

ہم میاں بیوی جو اپنے پہلے بچے کے انتظار میں تھے اس حکمنامہ سے بہت آزر دہ ہوئے لیکن ملک و ملت سے محبت، احساس جاہ طلبی اور اپنے ساتھیوں سے رقابت، تمام گھریلی تعیشات، جذبات اور بچے کی محبت پر چھاگئی اور میں نے بغیر تردود کے اس نئی ماموریت کو قبول کر لیا حالانکہ میری بیوی بار بار یہ زور دیتی رہی کہ میں اپنی روائی کو بچے کی پیدائش

تک ملتوی رکھوں۔ جب میں اس سے رخصت ہو رہا تھا تو وہ اور میں دونوں بے تحاشا رو رہے تھے۔ اس پر مجھ سے زیادہ رقت طاری تھی اور وہ کہہ رہی تھی: مجھے بھول نہ جانا، خط ضرور لکھتے رہنا، میں بھی اپنے بچے کے سنہری مستقبل کے بارے میں تمہیں لکھتی رہوں گی۔ اس کی باتوں نے میرا دل پسچ دیا اور مجھے سوچ کی اس منزل تک پہنچایا کہ میں اپنے سفر کو کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دوں لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو قابو پایا اور اس سے رخصت ہو کرنے احکامات حاصل کرنے کے لیے وزارت خانہ روانہ ہو گیا۔

سمندروں میں چھ ماہ کے طویل سفر کے بعد آخر کار میں بصرہ پہنچا۔ اس شہر میں رہنے والے زیادہ تر وہیں اطراف کے قبائل تھے جن میں ایرانی اور عرب اقوام کے دور ہم بازو شیعہ اور سنی ایک ساتھ زندگی کر زار رہے تھے۔ بصرہ میں عیسائیوں کی تعداد بہت کم تھی۔ اپنی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ میں اہل تشیع اور ایرانیوں سے مل رہا تھا۔ یہاں یہ بات نامناسب نہیں ہو گی اگر میں اہل تشیع اور اہل تسنن کے عقائد کے بارے میں مختصر کہتا چلوں۔ شیعہ حضرات، حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے داماد اور چچازاد بھائی علی ابن ابی طالب (رضی اللہ عنہ) کے محبت ہیں اور ان کو حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا برحق جانشین سمجھتے ہیں۔ ان کا ایمان ہے کہ حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نقش صریح کے ذریعہ حضرت علی کو اپنا جانشین منتخب فرمایا تھا اور آپ کے گیارہ فرزند یکے بعد دیگرے امام اور رسول خدا کے برحق جانشین ہیں۔

میری سوچ کے مطابق حضرت علی اور آپ کے دو فرزند امام حسن اور امام حسین کی خلافت کے بارے میں شیعہ حضرات مکمل طور پر حق بجانب ہیں کیونکہ اپنے مطالعات کی بنیاد پر بعض شواہد و اسناد میرے اس دعوے پر دلالت کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی ہی وہ ہستی تھے جو ممتاز صفات کے حامل تھے اور صحیح طور پر فوج اور اسلامی حکومت کی سربراہی کے اہل تھے۔ امام حسن اور امام حسین کی امامت کے بارے میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بہت سی حدیثیں دستیاب ہیں اور اہلسنت کو بھی ان سے انکار نہیں

ہے اور دونوں فریق اس پر متحد ہیں البتہ مجھے باقی نو افراد کی جانشینی میں تردید ہے جو حسین بن علی (علیہ السلام) کی اولاد سے ہیں اور شیعہ حضرات انہیں خصوصاً برحق مانتے ہیں۔ حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر ان افراد کی امامت کی خبر دیں جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں؟ لیکن اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے برحق پیغمبر ہوں تو پھر وہ غیب کی خبر دے سکتے ہیں جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے آئندہ برسوں کی خبر دی ہیں لیکن حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نبوت تو عیسائیوں کے نزدیک مسلم نہیں ہے (۱) مسلمانوں کا کہنا ہے کہ قرآن، پیغمبر کی نبوت پر بھر پور دلیل ہے لیکن میں نے جتنا بھی قرآن پڑھا مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی۔ (۲)

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ایک بلند پایہ کتاب ہے اور اس کا مقام تورات اور انجیل سے بڑھ کر ہے۔ قدیم داستانیں، اسلامی احکام، آداب، تعلیمات اور دیگر باتوں نے اس کتاب کو زیادہ معتر اور زیادہ ممتاز بنادیا ہے۔ لیکن کیا صرف یہ خصوصی فوقیت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی سچائی پر دلیل بن سکتی ہے؟ میں حیران ہوں کہ ایک صحرائشین جسے لکھنا اور پڑھنا بھی نہ آتا ہو کس طرح ایک ارفع و اعلیٰ کتاب انسانیت کے حوالے کر سکتا ہے۔ یہ کام تو کوئی پڑھا لکھا اور صاحب استعداد آدمی بھی اپنی پوری ہوشمندی کے باوجود انجام نہیں دے سکتا۔ پھر کس طرح ایک صحرائی عرب بغیر تعلیم کے ایک ایسی کتاب لکھ سکتا ہے؟ اور جیسا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں：“کیا یہ کتاب پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہو سکتی ہے؟”

(۱) انگریز جاسوس سے اس طرح کے نظریات خلاف توقع نہیں ہیں خاص طور پر جب اسے مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا گیا ہو۔

(۲) یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قران پاک پڑھنے کا دعویٰ بھی کرے لیکن اس کی نظر اس آیت پر نہ گئی ہو جس میں حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو جناب ختمی مرتبت کی بعثت کی خبر دیتے ہیں؟ ”ومبشرًا رسولًا من بعده اسمه أحمَدَ (سورہ صف آیت ۶)“ اس کے علاوہ بھی جناب رسالت مَا بِنَبِيٍّ کی رسالت پر صریحاً آیات موجود ہیں۔

میں نے اس بارے میں حقیقت سے آگاہی کیلئے بہت مطالعہ کیا ہے۔ لندن میں جب میں نے ایک پادری کے سامنے اس موضوع کو پیش کیا تو وہ بھی کوئی قابل اطمینان جواب نہ دے سکا۔ ترکی میں بھی میں نے شیخ احمد سے کئی دفعہ اس موضوع پر بات چیت کی مگر وہاں بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ میں لندن کے پادری کے مقابل شیخ احمد سے اتنی کھل کر گفتگو نہیں کر سکتا تھا اس لیے کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں میراپول نہ کھل جائے یا پھر کم از کم پیغمبر اسلام کے بارے میں اسے میری نیت پر شک نہ ہو جائے۔ بہر حال میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی قدر و منزلت کی عظمت اور بزرگی کا قائل ہوں۔ بے شک آپ کا شمار ان بافضلیت افراد میں ہوتا ہے جن کی کوششیں تربیت بشر کے لیے ناقابل انکار ہیں اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے لیکن پھر بھی مجھے ان کی رسالت میں شک ہے۔ تاہم اگر نہیں پیغمبر تسلیم نہ بھی کیا جائے تو بھی ان کی بزرگی ان افراد سے بڑھ کر ہے جنہیں ہم نو ان غم سمجھتے ہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تاریخ کے ہوشمند ترین افراد سے زیادہ ہوشمند تھے۔

اہل سنت کہتے ہیں: حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان (رضی اللہ عنہم) مستند آراء کی بنیاد پر حضرت علی (رضی اللہ عنہ) سے زیادہ امر خلافت کے حقدار تھے۔ اسی طرح انہوں نے خلفاء کے انتخاب میں قول پیغمبر کو بھلا کر برآہ راست اقدام کیا۔ اس طرح کے اختلافات اکثر ادیان، بالخصوص عیسائیت میں پائے جاتے ہیں لیکن شیعہ سنی اختلافات کا ناقبل فہم پہلو اس کا استقرار یا مسلسل جاری رہنا ہے جو حضرت علی اور حضرت عمر کے گزرنے کے صدیوں بعد بھی اب تک اسی زورو شور سے باقی ہے۔ اگر مسلمان حقیقتاً عقل سے کام لیتے تو گزری تاریخ اور بھولے زمانے کے بجائے آج کے بارے میں سوچتے۔ ایک دفعہ میں نے شیعہ سنی اختلافات کے موضوع کا اپنی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کی سامنے پیش کیا اور ملنے سے کہا: ”مسلمان اگر زندگی کے صحیح مفہوم کو سمجھتے تو ان اختلافات کو چھوڑ بیٹھتے اور وحدت و اتحاد کی بات کرتے۔“ اچانک صدر جلسہ نے میری بات بنتے ہوئے کہا:

تمہارا کام مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی آگ بھڑکانا ہے نہ کہ تم انہیں اتحاد اور یک جہتی کی دعوت دو۔

عراق جانے سے پہلے یکرٹی نے اپنی ایک نشست میں مجھ سے کہا:

ہم فرے! تم جانتے ہو کہ جنگ اور جھگڑے انسان کے لیے ایک فطری امر ہیں اور جب سے خدا نے آدم کو خلق کیا اور اس کے صلب سے ہائیل اور قابیل پیدا ہوئے اختلافات نے سراٹھایا اور اب اس کو حضرت عیسیٰ کی بازگشت تک اسی طرح جاری رہنا ہے۔

ہم انسانی اختلافات کو پانچ باتوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔

(۱) نسلی اختلافات

(۲) قبائلی اختلافات

(۳) ارضی اختلافات

(۴) قومی اختلافات

(۵) مذہبی اختلافات

اس سفر میں تمہارا ہم تین فریضہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنا اور انہیں ہوادیے کے طریقوں کو سیکھنا ہے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی معلومات مہیا ہو سکیں تمہیں اس کی اطلاع لندن کے حکام تک پہنچانا ہے۔ اگر تم اسلامی ممالک کے بعض حصوں میں سنی شیعہ فساد برپا کر دو تو گویا تم نے حکومت برطانیہ کی عظیم خدمت کی ہے۔

جب تک ہم اپنے نوا آبادیاتی علاقوں میں نفاق، تفرقہ، شورش اور اختلافات کی آگ کو ہوانہیں دیں گے پر سکون اور مرفوع الحال نہیں ہو سکتے۔ ہم اس وقت تک عثمانی سلطنت کو تکست نہیں دے سکتے جب تک اس کے قلمرو میں شہر شہر، گلی گلی فتنہ و فساد برپانہ کر دیں۔ اتنے بڑے علاقہ پر انگریزوں کی مختصری قوم سوائے اس ہتھکنڈے کے اور کس طرح چھا سکتی ہے۔

پس اے ہمفرے! تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنی پوری قوت صرف کر کے ہنگامے، شور شرابے، بھوٹ اور اختلافات کی کوئی راہ نکالو اور پھر وہاں سے اپنے کام کا آغاز کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت عثمانی حکومتیں کمزور ہو چکی ہیں۔ تمہارا فرض ہے کہ تم لوگوں کو ان کے حکمرانوں کے خلاف بھڑکاؤ۔ تاریخی حقائق کی بنیاد پر ہمیشہ انقلابات، حکمرانوں کے خلاف عوام کی شورش سے وجود میں آئے ہیں۔ جب کبھی کسی علاقے کے عوام میں بھوٹ اور انشار پڑ جائے تو استعمار کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔

بصرہ پہنچ کر میں ایک مسجد میں داخل ہوا۔ مسجد کے پیش امام اہلسنت کے مشہور عالم شیخ عمر طائی تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر بڑے ادب سے سلام کیا لیکن شیخ ابتدائی لمحہ ہی سے مجھ سے مشکوک ہوا اور میرے حسب نسب اور گزشتہ زندگی کے بارے میں مجھ سے سوالات کرنے لگا۔ میرا خیال ہے کہ میرے چہرے اور لہجے نے اسے شک میں ڈال دیا تھا لیکن میں نے بڑی ترکیب سے اپنے آپ کو اس کی گرفت سے بچالیا اور شیخ کے جواب میں کہا:

میں ترکی میں واقع "آغدری" کا رہنے والا ہوں اور مجھے قسطنطینیہ کے شیخ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ میں نے وہاں خالد بڑھی کے پاس بھی کام کیا ہے۔

مختصر یہ کہ ترکی میں میں نے جو کچھ سیکھا تھا وہ سب اس سے بیان کیا۔ میں نے دیکھا کہ شیخ حاضرین میں سے کسی کو آنکھ کے ذریعے اشارہ کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے ترکی آتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس شخص نے آنکھوں سے حامی بھری۔ میں دل میں بہت خوش ہوا کہ میں نے کسی حد تک شیخ کا دل جیت لیا ہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اپنی غلط فہمی کا احساس ہوا اور میں نے محسوس کیا کہ شیخ کا شہر ابھی اپنی جگہ باقی ہے اور وہ مجھے عثمانیوں کا جاؤں سمجھتا ہے۔ مشہور تھا کہ شیخ، بصرہ کے گورنر کا سخت مخالف تھا جسے عثمانیوں نے معین کیا تھا۔

بہر حال میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں شیخ کی مسجد سے ایک

علاء کے ایک غریب مسافر خانہ میں منتقل ہو جاؤ۔ میں نے وہاں ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ مسافر خانہ کا مالک ایک احمق آدمی تھا جو ہر صبح سوریے مسافروں کو پریشان کیا کرتا تھا اور مجھے نماز کے لیے جگاتا تھا اور پھر سورج نکلنے تک قرآن پڑھنے پر مجبور کرتا تھا۔ جب میں اس سے کہتا کہ قرآن پڑھنا واجب نہیں ہے پھر کیوں تمہیں اس امر میں اتنا اصرار ہے؟ تو وہ کہتا کہ طلوع آفتاب سے قبل کی نیند فقر اور بد بخختی لاتی ہے اور اس طرح مسافر خانہ کے تمام مقیم بد بخختی کا شکار ہو جائیں گے۔ مجھے اس کی بات مانی پڑی کیونکہ وہ مجھے وہاں سے نکالے جانے کی دھمکی دیتا تھا۔ ہر روز صبح میں نماز کے لیے اٹھتا تھا اور پھر ایک گھنٹہ یا اس سے زیادہ وقت تک قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔

میری مشکل یہیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن مسافر خانے کے مالک مرشد آفندی نے آ کر کہا: جب سے تم نے اس مسافر خانے میں رہائش اختیار کی ہے مصیبتوں نے میرا گھر دیکھ لیا ہے اور اس کی وجہ تم اور تمہاری لائی ہوئی نجومست ہے اس لیے کہ تم نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے۔ اور کسی کو اپنا شریک حیات نہیں بنایا ہے تمہیں یا شادی کرنی ہوگی یا پھر یہاں سے جانا ہوگا۔

میں نے کہا: آفندی! میں شادی کے لیے سرمایہ کہاں سے لاو؟ اس دفعہ میں نے اپنے آپ کو شادی کے ناقابل ظاہر کرنے سے احتراز کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ مرشد آفندی ٹوہ لگائے بغیر میری بات پر یقین نہیں کرنے والا آدمی نہیں تھا۔

مرشد آفندی نے جواب دیا: اور نام کے ضعیف الاعتقاد مسلمان! کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا جہاں اللہ کریم فرماتا ہے:

”وَهُوَ الْوَلُوْگُ جُو فَقْرٌ میں مبتلا ہیں خداوند نہیں اپنی بزرگی سے مالا مال کر دے گا۔“

میں حیران تھا کہ اس نا سمجھا انسان سے کس طرح پچھا چھڑاوں۔ آخر کار میں نے اس سے کہا: آپ کا ارشاد بجا ہے لیکن میں رقم کے بغیر شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ کیا آپ

ضروری اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم قرض دے سکتے ہیں۔ کیونکہ اسلام میں حق مہر ادا کیے بغیر کوئی عورت کسی کے عقد میں نہیں آ سکتی۔

آفندی کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا اور پھر قرض کی بات کرنے کے بجائے اچانک سر بلند کیا اور اوپر نجی آواز میں چینا: مجھے کچھ نہیں معلوم یا تمہیں شادی کرنی ہوگی یا پھر جب کی پہلی تاریخ تک کمرہ چھوڑنا ہوگا۔ اس دن جمادی الثاني کی پانچویں تاریخ تھی اور صرف ۲۵ دن میرے پاس تھے۔

اسلامی مہینوں کے ناموں کے بارے میں بھی یہاں کچھ تذکرہ نامناسب نہ ہوگا

(١) محرم (٢) صفر (٣) ربيع الاول

(٣) ربيع الثاني (٤) جمادى الاول (٥) جمادى الثاني

(٧) رجب (٨) شعبان (٩) رمضان

الشوال (١٠) | ذوالقعدة (١١) | ذوالحج (١٢)

ہر مہینہ چاند کے آغاز سے شروع ہوتا ہے اور ۳۰ دن سے اور پہلیں جاتا لیکن کبھی کبھی ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

مختصر یہ کہ مسافر خانہ کے مالک کی سخت گیری کے سبب مجھے وہ جگہ چھوڑنا پڑی۔
میں نے یہاں بھی ایک ترکھان کی دکان پر اس شرط کے ساتھ نوکری کر لی کہ وہ مجھے رہنے
اور کھانے کی سہولت فراہم کریگا اور اس کے عوض مزدوری کم دے گا۔ میں رجب سے پہلے
ہی نئی جگہ منتقل ہو گیا اور ترکھان کی دکان پر پہنچا۔ ترکھان عبدالرضانہایت شریف اور محترم
شخص تھا اور مجھ سے اپنے بیٹوں جیسا سلوک کرتا تھا۔

عبدالرضا ایرانی الاصل شیعہ تھا اور خراسان کا رہنے والا تھا۔ میں نے موقع سے
فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے فارسی سیکھنا شروع کی۔ دو پھر کے وقت اس کے پاس بصرہ
میں مقیم ایرانی جمع ہوتے تھے جو سب کے سب شیعہ تھے۔ وہاں بیٹھ کر ادھراً دھر کی گفتگو ہوتی

تھی۔ کبھی سیاست اور معیشت عنوان کلام ہوتا تھا اور کبھی عثمانی حکومت کو برا بھلا کہا جاتا تھا۔ خاص طور پر سلطنت وقت اور اتنبول میں مقرر ہونے والا خلیفہ مسلمین ان کی تنقید کا نشانہ ہوتا لیکن جو نہیں کوئی اجنبی گاہک دکان میں آتا وہ سب کے سب خاموش ہو جاتے اور ذاتی دلچسپی کے متعلق غیر احمد باتیں ہونے لگتیں۔

مجھے معلوم نہیں کہ میں کیونکر ان کے لیے قابل اعتماد تھا اور وہ میرے سامنے ہر قسم کی گفتگو کو جائز سمجھتے تھے۔ یہ بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی کہ انہوں نے مجھے آذربائیجان کا رہنے والا خیال کیا تھا کیونکہ میں ترکی بات چیت کرتا تھا اور آذربائیجانیوں کی طرح میرا چہرہ سرخ و سفید تھا۔

ان دونوں جب میں ترکھان کا کام کرتا تھا میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو وہاں آتا جاتا رہتا تھا اور ترکی، فارسی اور عربی زبانوں میں گفتگو کرتا تھا۔ وہ دینی طالب علموں کا لباس پہنتا تھا۔ اس کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا۔ وہ ایک اونچا اڑنے والا، ایک جاہ طلب اور نہایت غصیلا انسان تھا۔ اسے عثمانی حکومت سے سخت نفرت تھی اور وہ ہمیشہ اس کی برائی کرتا تھا لیکن حکومت ایران سے ان کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ ترکھان عبد الرضا سے اس کی دوستی کی وجہ مشترک یہ تھی کہ وہ دونوں ہی عثمانی خلیفہ کو اپنا سخت ترین دشمن سمجھتے تھے لیکن میرے علم میں یہ بات نہ آسکی کہ اس نے عبد الرضا ترکھان سے کس طرح دوستی بڑھائی تھی جبکہ یہ سنی اور وہ شیعہ تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ اس نے فارسی کہاں سے سیکھی تھی؟ البتہ بصرہ میں شیعہ سنی مسلمان ایک ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط دوستانہ تھی اور وہاں فارسی اور عربی دونوں زبانیں بولی جاتی تھیں تاہم ترکی سمجھنے والوں کی تعداد بھی وہاں کچھ کم نہ تھی۔

محمد عبد الوہاب ایک آزاد خیال آدمی تھا۔ اس کا ذہن شیعہ سنی تعصبات سے بالکل پاک تھا حالانکہ وہاں بیشتر سنی حضرات شیعوں کے خلاف تھے اور بعض سنی مفتی شیعوں

کی تکفیر بھی کرتے تھی۔ شیخ محمد کے نزدیک حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی مکاتیب فلر میں سے کسی مکتب فلر کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ وہ کہتا تھا کہ خدا نے جو کچھ قرآن میں کہہ دیا ہے بُس وہی ہمارے لیے کافی ہے۔

ان چار مکاتیب فلر کی داستان کچھ یوں ہے کہ حضرت پغمبر اکرم (صلوات اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے سو سال بعد عالم اسلام میں بلند پایہ علماء کا ظہور عمل میں آیا جن میں سے چار افراد ابوحنیفہ، احمد بن حنبل، مالک بن انس اور محمد بن اوریس شافعی اہل سنت کی پیشوائی کے مقام تک پہنچے۔ عباسی خلفاء کا زمانہ تھا اور ان عباسی خلفاء نے مسلمانوں پر دباؤ دا رکھا تھا کہ وہ مذکورہ چار افراد کے علاوہ کسی کی تقلید نہ کریں اگرچہ کوئی قرآن و سنت میں ان سے بڑھ کر دسترس کیوں نہ رکھتا ہو۔ عباسی خلفاء نے ان کے علاوہ کسی مجر اور اعلیٰ پایہ عالم کو ان کے مقابل میں ابھر نہیں دیا اور اس طرح درحقیقت انہوں نے علم کے دروازے کو بند کر دیا اور یہ بات اہل سنت والجماعت کے فکری جمود کا باعث بنی۔ اس کے برعکس شیعہ حضرات نے اہل سنت کی اس جمودی کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے عقائد و نظریات کو وسیع پیانے پر منتشر کرنا شروع کیا اور دوسری صدی ہجری کے آغاز میں باوجود اس کے کہ شیعہ آبادی اہل سنت کی مقابل میں دس فیصد تھی ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہونے لگا اور وہ اہل سنت کی ہم پایہ ہو گئے اور یہ ایک فطری امر تھا کیونکہ شیعہ حضرات کے پاس اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور یہ بات مسلمانوں کی تازگی فلر، اسلامی فقہ کی پیشافت اور نئی روشنی میں قرآن و سنت کے تمکن کا باعث بنی اور اسی نے اسلام کو نئے زمانوں کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ اجتہاد ہی وہ بڑا اوسیلہ تھا جو فلری جمود سے نہ رہ آزمار ہا اور اس کے ذریعے اسلام نے جلاء پائی اور فکروں میں مقید کرنا، مسلمانوں کے لیے جستجو اور تلاش کے راستوں کو بند کرنا اور نئی بات سے ان کی سماعت کرو کرنا اور وقت کے تقاضوں سے انہیں بے توجہ رکھنا دراصل وہ پوشیدہ اسلحہ تھا جس نے مسلمانوں کی پیشافت روک دی۔ ظاہر ہے جب دشمن کے ہاتھ

میں نیا اسلحہ ہوا اور آپ اپنے پرانے زنگ آلو دا اسلحہ سے اس کا مقابلہ کریں گے تو یقیناً جلد یا بدیر آپ کو ہزیرت اٹھانا پڑے گی۔ میں پشین گوئی سے کام لیتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اہل سنت کے صاحبان عقل افراد بہت جلد ہی مسلمانوں پر اجتہاد کا دروازہ کھول دیں گے اور یہ کام میرے اندازے کے مطابق اگلی صدی تک روئے عمل آئے گا اور سو سال بعد مسلمانوں میں اجتہاد کے حامی شیعوں کی اکثریت ہوگی اور اہل تسنن اقلیت میں رہ جائیں گے۔

اب میں شیخ محمد عبدالوہاب کے بارے میں عرض کروں یہ شخص قرآن و حدیث کا اچھا مطالعہ رکھتا تھا اور اپنی افکار کی حمایت میں بزرگان اسلام کے اقوال و آراء کو بطور سند پیش کرتا تھا لیکن کبھی کبھی اس کی فکر مشاہر علماء کے خلاف ہوتی تھی۔ وہ بات بات پر کہتا: پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے صرف کتاب اور سنت کو ناقابل تغیر اصول بنانے کا ہمارے لیے پیش کیا اور کبھی یہ نہیں کہا کہ صحابہ کرام اور ائمہ دین کے فرمودات اُن اور وحی منزل ہیں۔ پس ہم پر واجب ہے کہ ہم صرف کتاب و سنت کی پیروی کریں۔ علماء ائمہ اربع حتیٰ کہ صحابہ کی رائے خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، میں ان کے اتفاق اختلاف پر اپنے دین کو استوار نہیں کرنا چاہیے۔

ایک دن اس کی ایران سے آئے والے ایک عالم سے کھانے کے دستر خوان پر جھڑپ ہو گئی۔ اس عالم کا نام شیخ جواد قمی تھا اور اسے عبدالرضا ترکھان نے اپنے پاس مہمان بلا یا تھا۔ شیخ جواد قمی کے محمد بن عبدالوہاب سے اصولی اختلافات تھے اور ان کی گفتگو نے جلد ہی تلخی اور ترشی کا رنگ اختیار کر لیا۔ مجھے ان کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو تو یاد نہیں البتہ جو حصے مجھے یاد ہیں، میں ان کو یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔

شیخ قمی نے ان جملوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور محمد بن عبدالوہاب سے کہا:

”اگر تم ایک آزاد خیال انسان ہو اور اپنے دعوے کے مطابق اسلام کا کافی مطالعہ کر چکے ہو تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم حضرت علی کو وہ فضیلت نہیں دیتے جو شیعہ دیتے ہیں؟“

محمد نے جواب دیا: اس لیے کہ حضرت عمر اور دیگر افراد کی طرح ان کی باتیں بھی

میرے لیے جھٹ نہیں ہیں۔ میں صرف کتاب و سنت کو مانتا ہوں۔

تمی: اچھا اگر تم سنت کے عامل ہو تو کیا پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ نہیں کہا تھا؟ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں ”(أَنَا مَدِينَتُهُ الْعِلْمٌ وَعَلَيَّ بَابُهَا) اور کیا یہ کہہ کر پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے علی اور صحابہ کے درمیان فرق قائم نہیں کیا؟

محمد اگر ایسا ہے تو پھر پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے مقام پر کبی ہے کہ: ”میں نے تمہارے درمیان کتاب اور اہلبیت کو چھوڑا ہے“ (إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الْشَّقَلِينَ كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتَرَتِيْ أَهْلَ الْبَيْتِ) بے شک علی اہلبیت کے سربرا آورده افراد میں سے ہیں۔

محمد نے اس حدیث کو جھٹلا یا لیکن شیخ تمی نے اصول کافی کے اسناد کی بنیاد پر پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے اس حدیث کو ثابت کیا اور محمد کو خاموش ہونا پڑا۔ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اچانک اس نے شیخ پر اعتراض ٹھوڑا کا: ”پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارے لیے صرف کتاب اور اپنے اہلبیت کو باقی رکھا ہے تو پھر سنت کہاں گئی؟“

تمی نے جواب دیا: سنت اسی کتاب کی تفسیر و تشرع کا نام ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پیغمبر خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے اللہ کی کتاب اور میرے اہلبیت، یعنی کتاب خدا اس تشرع و تفسیر کے ساتھ جو سنت کہلاتی ہے اور اس کے بعد سنت کی تکرار کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

محمد نے کہا: اگر آپ کے دعوے کے مطابق عترت یا اہل بیت ہی کلام اللہ کی تفسیر ہیں تو پھر کیوں متن حدیث میں اس کا اضافہ ہوا ہے؟

تمی نے جواب دیا ”جتاب رسالت مآب (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وفات کے بعد امت محمدی کو قرآن سمجھانے والے کی اشد ضرورت تھی کیونکہ قوم اپنی زندگی کو احکام اللہ پر منطبق کرنا چاہتی تھی اس لیے پیغمبر کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے غیبی علم کی بنیاد پر کتاب اللہ کو اصل ثابت اور عترت کو مفسر و شارح کتاب بنا کرامت کے حوالے کیا۔

حیرانی کے ساتھ ساتھ مجھے ان کی گفتگو سے بڑا مزاج آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ محمد بن عبدالوہاب اس ضعیف العرش شیخ جوادی کے آگے ایک ایسی چڑیا کی مانند پھر پھر ارہا تھا جسے قفس میں بند کر دیا گیا ہوا اور اس کے پرواز کی راہ مسدود ہو گئی ہو۔

محمد بن عبدالوہاب سے میل جوں اور ملاقاتوں کے ایک سلسلہ کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ برطانوی حکومت کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ شخص بہت مناسب دکھائی دیتا ہے۔ اس کی اونچا اڑنے کی خواہش، جاہ طلبی، غرور، علماء و مشائخ اسلام سے اس کی دشنی، اس حد تک خود سری کو خلفاء راشدین بھی اس کی تنقید کا نشانہ بنیں اور حقیقت کے سراسر خلاف قرآن و حدیث سے اتفاقاً وہ اس کی کمزوریاں تھیں جس سے بڑی آسانی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔

میں نے سوچا کہاں یہ مغروف نوجوان اور کہاں استنبول کا وہ ترک بوڑھا آدمی (احمد آفندی) جس کے افکار و کردار گویا ہزار سال پہلے کے افراد کی تصویر کشی کرتے تھے۔ اس نے اپنے اندر ذرا بھی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ خنی مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ بوڑھا شخص ابوحنیفہ کا نام زبان پر لانے سے پہلے اٹھ کر وضو کرتا تھا یا مثلاً صحیح بخاری کے مطالعہ کو اپنا فرض سمجھتا تھا جو اہل سنت کے نزدیک حدیثوں کی نہایت معتبر اور مستند کتاب ہے اور وہاں بھی وضو کر کے بغیر کتاب کو نہیں چھوتا تھا اور اس کے بالکل برعکس شیخ محمد بن عبدالوہاب، ابو حنیفہ کی تحریر کرتا تھا اور اسے ناقابل اعتبار سمجھتا تھا۔ محمد کہتا تھا: ”میں ابوحنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں“۔ اس کا دعویٰ تھا کہ نصف صحیح بخاری بالکل لچڑا اور بیہودہ ہے۔

بہر صورت میں نے عبدالوہاب سے بہت گہرے مراسم قائم کر لیے اور ہماری دوستی میں ناقابل جدائی استحکام پیدا ہو گیا۔ میں بار بار اس کے کانوں میں یہ رس گھولتا تھا کہ خدا نے تمہیں حضرت علی اور حضرت عمر سے کہیں زیادہ صاحب استعداد بنایا ہے اور تمہیں بڑی فضیلت اور بزرگی بخشی ہے۔ اگر تم جناب رسالت مآب ﷺ کے زمانے میں

ہوتے تو یقیناً ان کی جائشی کا شرف تمہیں ہی ملتا۔ (نعوذ بالله من ذالک) میں ہمیشہ پر امید لجھ میں اس سے کہتا:

میں چاہتا ہوں کہ اسلام میں جس انقلاب کو رونما ہوتا ہے وہ تمہارے ہی مبارک ہاتھوں سے انجام پذیر ہواں لیے کہ صرف تم ہی وہ شخصیت ہو جا اسلام کو زوال سے بچاسکت ہو اور اس سلسلے میں سب کی امید یہ تم سے وابستہ ہیں۔

میں نے عبد الوہاب کے ساتھ طے کیا ہم دونوں بینہ کر علماء، مفسرین، پیشوایان دین و مذہب اور صحابہ کرام سے ہٹ کرنے افکار کی بنیاد پر قرآن مجید پر گفتگو کریں۔ ہم قرآن پڑھتے اور آیات کے بارے میں اظہار خیال کرتے تھے۔ میر لاکھ عمل یہ تھا کہ میں کسی طرح اسے انگریز نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے دام میں پھنسادوں۔

میں نے آہستہ آہستہ اس اوپھی اڑان والے خود برست انسان کو اپنی گفتگو کی لپیٹ میں لینا شروع کیا یہاں تک کہ اس نے حقیقت سے کچھ زیادہ ہی آزاد خیال بننے کی کوشش کی۔

ایک دن میں نے اس سے پوچھا: ”کیا جہاد واجب ہے؟“ اس نے کہا: کیوں نہیں۔ خداوند عالم فرماتا ہے: ”کافروں سے جنگ کرو۔“

میں نے کہا: خداوند عالم فرماتا ہے: کافروں اور منافقوں دونوں سے جنگ کرو اور اگر کافروں اور منافقوں سے جنگ واجب ہے تو پھر پیغمبر ﷺ نے منافقوں سے کیوں جنگ نہیں کی؟“

محمد بن عبد الوہاب نے جواب دیا: ”جہاد صرف میدان جنگ ہی میں نہیں ہوتا۔ پیغمبر خدا نے اپنی رفتار و گفتار کے ذریعے منافقوں سے جنگ کی ہے۔“

میں نے کہا: ”پھر اس صورت میں کفار کے ساتھ جنگ بھی رفتار و گفتار کے ساتھ واجب ہے۔“

اس نے جواب دیا: ”نہیں، اس لیے کہ پیغمبر ﷺ نے جنگ کے میدان میں ان کے ساتھ جہاد کیا ہے۔“

میں نے کہا: ”کفار کے ساتھ رسول خدا ﷺ کی جنگ اپنے دفاع کے لیے تھی کیونکہ وہ ان کی جان کے دشمن تھے۔“

محمد بن عبد الوہاب نے اثبات میں اپنا سر ہلایا اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں۔

ایک اور دن میں نے اس سے کہا: ”کیا عورتوں سے متعہ جائز ہے؟“

اس نے کہا: ”ہرگز نہیں۔“

میں نے کہا: ”پھر کیوں قرآن نے اسے جائز قرار دیتے ہوئے کہا ہے؟“ اور جب تم ان سے متعہ کرو تو ان کا حق مہرا دا کرو۔“

اس نے کہا: ”ہاں یہ آیت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے حرام قرار دیا کہ: متعہ پیغمبر ﷺ کے زمانہ میں حلال تھا، اسے حرام قرار دیتا ہوں اور اب جو اس کا مرتكب ہو گا میں اسے سزا دوں گا۔“

میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے۔ تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کرتے ہو اور پھر اپنے آپ کو اس سے زیادہ صاحب عقل بھی کہتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حلال محمد ﷺ کو حرام کریں۔ تم نے قرآن کو بھلا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو تسلیم کر لیا؟

محمد بن عبد الوہاب نے چپ سادھی اور خاموشی اس کی رضا مندی کی دلیل تھی۔

اس موضوع پر اس کی خیالات درست کر کے میں نے اس کے ”جوانی خیالات“ کو ابھارنا شروع کر دیا۔ وہ ایک غیر متأبل شخص تھا۔ میں نے اس سے پوچھا: ”متعہ کے ذریعے اپنی زندگی پر مسرت بنانا چاہتے ہو؟“

محمد بن عبد الوہاب نے رضا اور رغبت کی علامت سے اپنا سر جھکایا۔ میں اپنے فرائض کے انتباہی اہم موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں بہر حال تمہارے لیے اس کا انتظام کر دوں گا، مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں محمد بن عبد الوہاب بصرہ کے ان سنیوں سے خوف زدہ نہ ہو جائے جو اس بات کے مقابل تھے۔ میں نے اطمینان دلا یا کہ ہمارا پروگرام بالکل مخفی رہے گا یہاں تک کہ عورت کو بھی تمہارا نام نہیں بتایا جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد میں اس بدمقاش نصرانی عورت کے پاس گیا جو انگلستان کے نوا آبادیاتی علاقوں کی وزارت کی طرف سے بصرہ میں عصمت فروشی پر معمور تھی اور مسلم نوجوانوں کو بے راہ روی پر ابھارتی تھی۔ میں نے اس سے تمام واقعات بیان کیے۔ جب وہ راضی ہو گئی تو میں نے اس کاعارضی نام "صفیہ" رکھا اور کہا کہ میں شیخ کو لے کر اس کے پاس آؤں گا۔

مقررہ دن میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کو لے کر صفیہ کے گھر پہنچا۔ ہم دونوں کے سوا ہاں اور کوئی نہیں تھا۔ محمد بن عبد الوہاب نے ایک اشرفتی مہر پر ایک بفتہ کے لیے صفیہ سے عقد کیا۔ مختصر یہ کہ میں باہر اور صفیہ اندر سے محمد بن عبد الوہاب کو آئندہ کے پروگراموں کے تیار کر رہے تھے۔ صفیہ نے احکام دین کی پامالی اور آزادی رائے کا پر کیف مزہ محمد بن عبد الوہاب کو چکھا دیا تھا۔

میں اس تقریب کے تیرے دن پھر محمد بن عبد الوہاب سے طا اور ہم نے ایک بار پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اس بار شراب کی حرمت زیر بحث تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں ان آیات کو رد کروں جو محمد بن عبد الوہاب کے نزدیک حرمت شراب پر دلیل تھیں۔ میں نے اس سے کہا: "اگر معاویہ، خلفائے بنو امية اور بنی عباس کی شارب نوٹی ہمارے نزدیک مسلم ہو تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ یہ تمام پیشوایان دین و مذہب گمراہی کی زندگی برکرتے ہوں اور تنہا تم پر راستے پر ہو؟ بے شک وہ لوگ کتاب الہی اور سنت رسول کو ہم سے زیادہ بہتر

ہمرے کے اعتراضات ۳۹

جانتے تھے۔ پس یہ بات سامنے آتی ہے کہ ارشادات خدا اور رسول ﷺ سے ان بزرگوں نے جو استنباط کیا تھا وہ شراب کی حرمت نہیں بلکہ اس کی کراہت تھی۔ اس کے علاوہ یہود و نصاریٰ کی مقدس کتابوں میں صراحةً سے شراب پینے کی اجازت ہے حالانکہ یہ بھی الٰہی ادیان ہیں اور اسلام ان ادیان کے پیغمبروں کا معتقد ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شراب اللہ کے بھیجے ہوئے ایک دین میں حلال اور دوسرے میں حرام ہو؟

کیا یہ سب ادیان برق یا خدائے یکتا کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں؟

ہمارے پاس تو یہ بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت تک شراب پینے رہے جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی: ”کیا تم شراب اور جوئے سے دستبردار نہیں ہو گے؟“ اسی لیے رسول خدا ﷺ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شراب نوشی پر حد جاری فرماتے مگر آپ کا ان پر حد جاری نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ شراب حرام نہیں ہے۔

محمد بن عبد الوہاب جو بڑے غور سے میری گفتگوں رہا تھا اچانک سنجدلا اور کہا: ”روایات میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شراب میں پانی ملا کر پینے تھے تاکہ اس کی وہ کیفیت دور ہو جائے جو نشہ پیدا کرتی ہے۔ وہ کہتے تھے شراب کی مستی حرام ہے نہ کہ شراب، وہ شراب جس سے نشہ طاری نہ ہو، وہ حرام نہیں ہے“ (اب یہ امام الوہابیہ پوری طرح ”ہمرے“ کے جال میں پھنس چکا ہے، اسی لیے اس کی تائید کر رہا ہے۔ (مترجم)

محمد بن عبد الوہاب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس نظریہ کو اس آیت کی روشنی میں جانتا تھا جس میں ارشاد ہوتا ہے: ”شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوئے کے ذریعے عداوت اور دشمنی پیدا کر دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے باز رکھئے۔“

اگر شراب میں مستی اور نشہ نہ ہو تو پینے والے پر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے اور اسی لیے وہ شراب جس میں مستی نہیں حرام نہیں ہے۔

میں نے محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ شراب سے متعلق گفتگو کو صفحہ کے گوش

گزار کیا اور اس کو تاکید کی کہ موقع ملتے ہی محمد بن عبد الوہاب کو نشہ میں چور کر دو اور جتنا ہو سکے شراب پلاو۔

دوسرے دن صفیہ نے مجھے اطلاع دی کہ اس نے شیخ کے ساتھ جی کھول کر شراب نوشی کی بیہاں تک کہ وہ آپ سے باہر ہو گیا اور چینخ چلانے لگا۔ رات کی آخری گھری میں کئی مرتبہ اس نے مقاربہ کی اور اب اس پر نقاہت کا عالم طاری ہے اور چہرے کی آب و تاب ختم ہو چکی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ میں اور صفیہ پوری طرح محمد بن عبد الوہاب پر چھا چکے تھے۔ اس منزل پر مجھے نو آبادیاتی علاقوں کے وزیر کی سنہری بات یاد آئی جو اس نے مجھے الوداع کرتے ہوئے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا:

”ہم نے اپسین کو کفار (مراد اہل اسلام ہیں) سے شراب اور جوئے کے ذریعے دوبارہ حاصل کیا۔ اب انہیں دو طاقتوں کے ذریعے دوسری علاقوں کو بھی پامردی کے ساتھ واپس لینا ہے۔“

محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ مذہبی گفتگو کے دوران ایک دن میں نے روزہ کے مسئلہ کو ہوادی اور کہا: ”قرآن کہتا ہے: ”روزہ تمہارے لیے بہتر ہے۔“ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پر واجب ہے۔ لہذا اسلام میں روزہ واجب نہیں منتخب ہے۔“ (ہمفرے کے اس واضح غلط بیان پر عبد الوہاب نجدی اس سے ناراض ہو جاتا ہے)

اس موقع پر عبد الوہاب کو غصہ آیا اور اس نے کہا: ”تم مجھے دین سے خارج کرنا چاہتے ہو۔“

میں نے کہا: ”اے محمد بن عبد الوہاب! دین قلب کی پاکی، جان کی سلامتی اور اعتدالی کا نام ہے۔ یہ کیفیات انسان کو دوسروں پر ظلم و زیادتی سے روکتی ہیں۔ کیا حضرت عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مذہب عشق و وارثتی کا نام ہے؟“ کیا قرآن یہ نہیں کہتا: ”یقین حاصل کرنے تک اللہ کی عبادت کرو۔ اب اگر انسان یقین کامل کی منزل پر پہنچ جائے، خدا اور روز

قیامت اس کی دل میں رانخ ہو جائیں، ایمان سے اس کا دل لبریز ہو جائے اور وہ اچھے سلوک کا حامل ہو تو پھر روزہ کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ اس منزل میں وہ اعلیٰ ترین انسانی مراتب سے وابستہ ہو جاتا ہے۔“ محمد بن عبدالوہاب نے اس مرتبہ شدید مخالفت کی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔

ایک دفعہ میں نے محمد بن عبدالوہاب بخاری سے کہا: نماز واجب نہیں“

اس نے پوچھا: ”کیوں؟“

میں نے کہا: اس لیے کہ خداوند عالم نے قرآن میں کہا ہے کہ: ”مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کرو“ پس نماز کا مقصد ذکر الٰہی ہے اور تمہیں چاہیے کہ تم اس کا نام اپنی زبان پر جاری رکھو۔“

محمد بن عبدالوہاب نے کہا: ”ہاں میں نے سنا ہے کہ بعض علمائے دین نماز کے وقت اللہ کے نام کی تکرار شروع کرتے ہیں اور نمازاد انہیں کرتے۔“

میں محمد بن عبدالوہاب کے اس اعتراض سے بہت زیادہ خوش ہوا مگر احتیاطاً کچھ دیر میں نے اسے نماز پڑھنے کی تلقین بھی کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے پابندی چھوٹ گئی۔ اب وہ کبھی نماز پڑھتا اور کبھی نہ پڑھتا۔ خاص طور سے صبح کی نماز غالباً اس نے ترک ہی کر دی تھی۔ ہم لوگ رات کو دیر تک جا گتے جس کی وجہ سے صبح انھنے اور وضو کرنے کی ہمت اس میں باقی نہیں رہتی تھی۔

قصہ مختصر، آہستہ آہستہ میں محمد بن عبدالوہاب کے بدن سے ایمان کا لبادہ اتنا نے میں کامیاب ہو گیا۔ میں ہر روز اس سے اپنی میٹھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتا۔ انجام کا را ایک دن میں نے گفتگو کی حدود کو جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ذات (قدس) تک آگے بڑھایا۔ اچاکہ اس کے چہرے پر تبدیلی آئی اور وہ اس موضوع پر گفتگو کے لیے تیار

نہیں ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا: ”اگر تم نے رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شان میں گستاخی کی تو ہماری تمہاری دوستی کے دروازے یہیں سے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔
میں نے اپنی مختنوں پر پانی پھرتے دیکھا تو فوراً اپنا موضوع گفتگو بدل دیا اور پھر اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔

اس دن کے بعد سے میرا مقصد محمد بن عبد الوہاب کو رہبری اور پیشوائی کی فکر دینا ہو گیا۔ مجھے اس کے قلب و روح میں اتر کر شیعہ سنی فرقوں کے علاوہ اسلام میں ایک تیرے فرقے کی سربراہی کی پیش کش کو اس کے لئے قابل عمل بنانا تھا۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری تھا کہ پہلے میں اس کے ذہن کو بیجا محبتوں اور اندر ہی تھبات سے پاک کر دوں اور اس عنوان سے اس کی آزاد خیالی اور بلند پروازی کو تقویت پہنچاؤں۔ اس کام میں صفیہ بھی میری مددگار تھی کیونکہ محمد بن عبد الوہاب اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا اور ہر ہفتہ متعہ کی مدت کو بڑھاتا تھا۔ مختصر یہ کہ صفیہ نے محمد بن عبد الوہاب سے صبر و قرار اور اسکے تمام اختیارات چھین لیئے تھے۔

میں نے اپنی ایک ملاقات میں محمد بن عبد الوہاب سے کہا: ”کیا یہ درست ہے کہ جناب رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تمام اصحاب سے دوستی تھی؟“
اس نے جواب دیا ”ہاں“

میں نے پوچھا: ”اسلام کے قوانینِ داکی ہیں یا وقتی؟“
اس نے کہا: ”بے شک داکی ہیں“، اس لئے کہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں کہ: ”حلال محبوبیت قیامت تک حلال ہیں اور حرام محبوبیت قیامت تک حرام ہے“
میں نے بلا تاثیر کہا: ”ہمیں بھی ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کا دوست اور بھائی ہونا چاہیے۔“

اس نے میری پیشکش کو قبول کیا اور اس دن کے بعد سے تمام فروع حضر میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ جس پودے کو سینخنے میں میں نے اپنی جوانی کے دن صرف کئے ہیں اب جتنی جلد ممکن ہو سکے اس کے بچاؤ سے استفادہ کروں۔ حسب معمول میں ہر مہینے کی رپورٹ انگلستان میں نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت کو بھیجا تھا۔ رپورٹ لکھنا اب میری عادت میں شامل ہو گیا تھا جس میں کبھی میں کوتاہی نہیں کرتا تھا۔ وہاں سے جو جوابات لکھے جاتے تھے وہ تمام کے تمام بڑی حوصلہ افزائی اور پر امید ہوا کرتے تھے اور اپنے فرانس کی انجام دہی میں میری ہمت بڑھاتے تھے۔ میں اور محمد بن عبدالوہاب نے جس راستے کا تعین کیا تھا ہم اسے بڑی تیزی سے طے کر رہے تھے۔ میں سفر و حضر میں کبھی اس کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں آزاد خیالی اور مذہبی عقائد میں جدت پسندی کی روح کو اس کے وجود میں استحکام بخشوں۔ میں ہمیشہ اس کو یہ آس دلاتا رہتا تھا کہ ایک تابناک مستقبل تمہارے انتظار میں ہے۔

ایک دن میں نے اس سے اپنا ایک جھوٹا خواب بیان کیا اور کہا: رات میں نے جناب خاتمی مرتبہ ﷺ کو بالکل اسی سراپا کے ساتھ کری پر بیٹھے دیکھا جیسے ذا کر اور واعظین منبروں پر بیان کرتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور بزرگان زین نے جن سے میری کوئی واقفیت نہیں تھی چاروں طرف سے ان کو گھیر رکھا تھا۔ ایسے میں، میں نے دیکھا کہ اچاک۔ تم اس مجمع میں داخل ہو گئے۔ تمہارے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ جب تم رسالت مآب ﷺ کے سامنے پہنچ تو انہوں نے کھڑے ہو کر تمہاری تعظیم کی اور ماتھا چو ما اور کہا: ”اے میرے ہمnam محمد بن عبدالوہاب تم میرے علم۔ کے وارث اور مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی امور کو سنوارنے میں میرے جانشین ہو۔“

یہ سن کر تم نے کہا: ”یا رسول اللہ ﷺ لوگوں پر اپنے علم کا ظاہر کرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے۔“

جاتا ب رسالت مَا بَلَّغَهُ نے فرمایا: خوف کو اپنے دل میں جگہ دو کیونکہ جو کچھ تم
اپنے بارے میں سوچتے ہو، اس سے کہیں زیادہ صاحب مرتبہ ہو۔ محمد بن عبد الوہاب نے
میرے اس میں گھرست خواب کو سنا تو خوشی سے پھولانہ سمایا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا تھا کیا
تمہارے خواب پچھے ہوتے ہیں؟ اور میں مسلسل الہمینان دلا آ رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ خواب
کے ذکرے کے ساتھی اس نے اپنے دل میں نئے مذہب کا اعلان کا مضموم ارادہ کر لیا ہے۔



اس دوران مجھے لندن سے خط پہنچا کہ میں فوراً کربلا اور نجف کے مقدس شہروں
کی طرف روانہ ہو جاؤں جو شیعوں کے لئے قبلۃ آرزو اور علم درود حنیت کے مرکز ہیں۔
اب سب سے پہلے میں مقدمہ کے طور پر ان دونوں مقدس شہروں کا ایک نہایت مختصر مذکور
پیش کرتا چاہتا ہوں۔

الم تُشْعِیْعُ کے پہلے امام اور عامت اُسْلَمِیْن کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عن
کی مدفن شہر نجف کی اہمیت کا سرلوحہ آغاز ہے اور یہیں سے اس بستی کا وجود عمل میں آئے
ہے اور یہ روز بروز پھیلتی چلی جاتی ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ
عنہ کی شہادت کے وقت مرکز خلافت یعنی کوفہ سے نجف کا فاصد چہ کو میز قابے پیدا کیا
گئے میں طے کیا جا سکتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جاتب حسین علیہم السلام
آپ رضی اللہ عنہ کے جائزے کو پوشیدہ طور پر اس دوران تاریخی طلاقہ میں لائے جئے آج نجف
کہا جاتا ہے اور رات کی تاریکی میں آپ کو دفن کر دیا۔ اب یہ شہر ہمیں انہرین کا سب سے بڑا
علاقہ کہلاتا ہے اور اس کی آبادی کوفہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس جگہ الم تُشْعِیْعُ کا حوزہ ملکہ قائم
ہے اور دنیا بھر کے علماء نے اس شہر میں بسیر انتیار کیا ہے۔ ہر سال اس کے بازاروں،
مدرسوں اور گھروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ شیعہ علماء خصوصی احترام کے حامل ہیں۔
استنبول میں تحریم ہائی خلیفہ مندرجہ ذیل وجوہات کی نظر پر ان کا یہ احترام کرتا تھا۔

(۱) ایران کا بادشاہ شیعہ مذهب کا پیروکار تھا اور علمائے نجف کی نسبت عثمانی سلاطین کا

احترام ایران اور ترکی کے دوستانہ روابط میں استحکام کا باعث تھا اور اس طرح دونوں ممالک میں جنگ کا کھٹکا ختم ہو جاتا تھا۔

(۲) نجف کے اطراف واکناف میں بہت سے قبائل آباد تھے جو سب کے سب مسلح اور سختی سے شیعہ مراجع کے پیروکار تھے۔ ان کے پاس فوجی اسلحہ اور افوجی تربیت نہیں تھی۔ یہ لوگ قبائلی زندگی کے عادی تھے لیکن علماء کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے لہذا اگر عثمانیوں کی طرف علماء کی بے احترامی عمل میں آتی تو وہ سب کے سب عثمانیوں کے خلاف متعدد ہو جاتے اور یہ کوئی عقلمندی کی بات نہ تھی کہ اتنی بول کی خلافت ایسا خطرہ اپنے لیے مول لیتی۔

(۳) ساری دنیاۓ تشیع میں شیعہ علماء کی مرجعیت قائم تھی لہذا اگر عثمانیوں کی طرف سے زرہ برابر بھی ان کی اہانت ہوتی تو ایران، ہندوستان، افریقہ کے تمام ممالک کے شیعہ برادری خلافت ہوتے اور یہ بات ترک حکومت کے حق میں نہ تھی۔

اہل تشیع کا دوسرا مقدس شہر کربلاۓ معلیٰ ہے۔ یہ شہر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آج تک مسلسل پھیل رہا ہے۔ عراق کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو دعوت دی کہ آپ تشریف لا میں لیکن جو نہیں آپ اپنے خاندان کے ساتھ کربلاۓ معلیٰ پہنچے جو کوفہ سے تقریباً ۲۷ کلومیٹر کے فاصلہ پر ہے عراق کے لوگوں کا مزاج بدلتا گیا اور وہ یزید کے حکم پر امام کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔

یزید بن معاویہ اموی خلیفہ تھا جس کی شام پر حومت تھی۔ اموی لشکر، حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے سے بر سر پیکار ہوا آخ کاران سب کو شہید کر دیا گیا۔ عراقیوں کی

یہ بزدلی اور یزیدی، شکر کی، پلیدی اور سنگدی اسلامی تاریخ کی سب سے زیادہ شرمناک داستان ہے۔ اس واقعے کے بعد آج تک دنیا کے تمام شیعہ کربلا کو زیارت، عبادت، روحانی لگاؤ اور توجہ اور مرکز بنائے ہوئے ہیں اور ہر طرف سے جو ق در جو ق وہاں پہنچتے ہیں۔ کبھی اتنا مجمع ہوتا ہے کہ تاریخ مسیحیت میں بھی کبھی ایسا اجتماع دیکھنے میں نہیں آیا۔ کربلا کے شہر میں بھی شیعہ علماء اور مراجع دین اسلام کی تعلیم و ترویج میں ہمیشہ معروف نظر آتے ہیں۔ یہاں کے دینی مدرسے طالب علموں سے بھرے رہتے ہیں۔ کربلا اور نجف بلکل ایک دوسرے کی مثالیں ہیں۔ دجلہ و فرات عراق کے دو بڑے دریا ہیں جن کا سرچشمہ ترکی کا ایک کوہستانی علاقہ ہے۔ میں النہرین کی کھیتیاں اسی کے دم سے آباد ہیں اور یہاں کے لوگوں کی خوشحالی انہیں دریاؤں کی مر ہون منت ہے۔

جب میں اندن واپس گیا تو میں نے نوا آبادیاتی علاقوں کی وزارت کو یہ پیشکش کی کہ وہ حکومت عراق لو اپنا فرمانبردار بنانے کے لئے دجلہ و فرات کے سنگم کو کنٹرول کرے اور شورش اور بغاوت کے موقعوں پر اس کے راستے تبدیل کرے تاکہ وہاں کے لوگ انگریزوں کے استعماری مقاصد کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔

میں ایک برابری سوداگر کے بھیں میں نجف پہنچا اور وہاں کے شیعہ علماء سے رسموراہ بڑھانے کے لئے ان کی دری مجلسوں اور مباحثہ کی محفلوں میں شرکت کرنے لگا۔ محفلیں بیشتر اوقات مجھے اپنے اندر جذب رہی تھیں کیونکہ ان میں قلب و ضمیر کی پاکی حکم فرماتھی۔ میں نے شیعہ علماء کو انتہائی پاک دامن اور پر ہیز گار پایا لیکن افسوس کہ ان میں زمانے کی تبدیلی کے اثرات کا فقدان تھا اور دنیا کے انقلابات نے ان کی فکر میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔

(۱) نجف کے علماء اور مراجع عظامی حکام کے شدید مخالف تھے اس لئے نہیں کہ وہ سنی تھے بلکہ اس لئے کہ وہ ظالم تھے اور عوام ان سے ناخوش تھے اور اپنی نجات کے لئے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔

(۲) وہ لوگ اپنا تمام وقت درس و تدریس اور دینی علوم و مباحث پر صرف کرتے تھے اور قرون وسطی کے پادریوں کی طرح انہیں جدید علوم سے دلچسپی نہیں تھی اور اگر کچھ جانتے بھی تھے تو وہ ان کے لئے نہ جاننے کے برابر تھا۔

(۳) انہیں دنیا کے سیاسی واقعات کا قطعاً علم نہ تھا اور اس قسم کے مسائل پر سوچنا ان کے نزدیک بالکل عبث اور بیہودہ تھا۔ انہیں دیکھ کر میں آپ ہی آپ کہتا تھا: واقعی یہ لوگ کتنے بدجنت ہیں۔ دنیا جاگ چکی ہے مگر یہ ابھی خواب خرگوش ہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ شاید کوئی تباہ موجود فوج ہی ان کو اس خواب گراں سے بیدار کرے۔ میں نے بعض علماء سے خلافت عثمانیہ کے خلاف تحریک چلانے پر گفتگو کی لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ لوگ اس قسم کے مسائل سے دلچسپی نہیں رکھتے۔ بعض لوگ میراذاق اڑاتے تھے اور میری بات کا یہ مفہوم نکالتے تھے کہ میں دنیا کے حالات کو ڈگر گوں اور نظام عالم کو برہم کرنا چاہتا ہوں۔ ان علماء کی نظر میں خلافت مقدور و محتوم تھی۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ انہیں ظہور مہندی معود سے پہلے آل عثمان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ مہدی موعود شیعوں کے بارھوں امام ہیں جو بچپن ہی میں پرده غیب میں چلے گئے ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں۔ آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا اور وہ اس وقت دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جب وہ مکمل طور پر ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔

میں اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے اسلامی دانشمندوں کے بارے میں سخت حیران تھا۔ ان کا عقیدہ بعینہ قشری عیسائیوں کا عقیدہ تھا جو قیام عدل کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بازوں کے قائل تھے۔ میں نے ایک عالم سے پوچھا: کیا آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ابھی ظلم و زیادتی کی خلاف رزم آرا ہو کر دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا جائے؟ بالکل اسی طرح جس طرح پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ظالموں کی خلاف جہاد کیا تھا؟

انہوں نے فرمایا: پغمبر اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) وخدانے اسی کام کے لئے مامور کیا تھا اور اسی لئے ان میں اس کام کو انجام دینے کی توانائی تھی۔

میں نے کہا: کیا قرآن یہ نہیں کہتا: ”اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہارا مددگار ہوگا“، (انْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ (سورۃ محمد۔ آیت ۷)۔ لہذا تم بھی اللہ کی طرف سے ظالموں کے خلاف تلوار اٹھانے پر مامور ہو۔

آخر کارزیج ہو کر اس نے کہا: ”تم ایک تجارت پیشہ آدمی ہو اور ان موضوعات پر گفتگو کے لئے ایک سلسلہ علم کی ضرورت ہے جس کے لئے تم مناسب نہیں ہو۔“

اب ذرا نجف کی طرف آئیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روضہ کے بارے میں گفتگو کریں۔ بڑی پر شکوہ اور باعظمت آرامگاہ ہے۔ پوری عمارت ضاعی، نقاشی، آئینہ کاری اور مختلف سجاوٹوں کا بے مثال شاہکار ہے۔ اطراف مزار بڑے بڑے پر شکوہ کمرے، طلائی ناب کا عظیم گنبد اور سونے کے دو مینار ایک عجیب منظر پیش کرتے ہیں۔ شیعہ حضرات ہر روز گروہ درگروہ روضہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوتے ہیں اور وہاں کی نماز جماعت میں شرکت کرتے ہیں۔ وہ لوگ بڑے والہانہ انداز میں اخلاق و ارادت کا مجسمہ بن کر ضریح کو بوہدیتے ہیں۔ داخلہ سے پہلے عاشقان امام دروازے پر خود کو گردیتے ہیں اور بڑے احترام سے بارگاہ کی زمین کو چوٹتے ہیں۔ پھر امام علی رضی اللہ عنہ پر درود بھیجتے ہیں اور اذن و خواں پر چڑھ کر حرم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ حرم کے چاروں طرف ایک عظیم الشان صحن ہے جس میں بہت سے کمرے بنے ہوئے ہیں جو علمائے دین اور زائرین حرم کی اقامت گاہ ہیں۔ کربلا میں دو مشہور آرامگاہیں ہیں جو تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ نجف میں واقع حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آرامگاہ کے طرز پر بنائی گئی ہیں۔ پہلی آرامگاہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اور دوسری حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ہے۔ کربلا کے زائرین بھی

نجف کی طرح روزانہ حرم میں حاضری دیتے ہیں۔ اور امام کی زیارت کرتے ہیں۔ کربلا مجموعی طور نجف سے زیادہ خوش منظر ہے۔ چاروں طرف ہرے بھرے خوشنا باغات اور ان کے درمیان دریا کے بہتے پانی نے اس کی خوبصورتی میں چارچاند لگا دیے ہیں۔

ان شہروں کی ویرانی اور آشفة حالی نے ہماری کامیابی کے موقع فراہم کر رکھے تھے۔ لوگوں کی حالت زار دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عثمانی حکام نے ان شہروں کے رہنے والوں کے ساتھ کن کن جرام کا ارتکاب کیا اور کیسی کیسی زیادتیاں کیں۔ یہ لوگ بڑے نادان، لاچی، اور خود سر تھے اور جو چاہتے تھے کر گزرتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عراق کے لوگ ان کے زر خرید غلام ہیں۔ پوری قوم حکومت سے نالاں تھی اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ حضرات اپنی آزادی چھن جانے کے باوجود حکام کے ظلم و ستم کو صبر و سکون کے ساتھ سہہ رہے تھے اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے تھے، اہل سنت حضرات کا بھی یہی حال تھا۔ وہ لوگ اپنی سرز میں پر ترک گورنر کے سلطے سے بہت ناخوش تھے خاص طور پر جبکہ انکی رگوں میں عرب اشرافیت کا خون دوڑ رہا تھا۔ ادھر خاندان رسالت سے واپسی رکھنے والے افراد حکومتی انتظامات میں اپنے آپ کو عثمانی گورنر سے زیادہ حق دار سمجھتے تھے۔

تمام بستیاں ویران تھیں۔ گرد و غبار بستی والوں کا مقدور بن چکا تھا۔ ہر طرف بد نظمی کا دور دورہ تھا۔ راستوں پر لیٹرے قابض تھے اور اس تاک میں بیٹھے رہتے تھے کہ حکومت کی سر پرستی سے آزاد کوئی قافلہ وہاں سے گذرے اور وہ انہیں لوٹا شروع کر دیں لہذا بڑے بڑے قافلے صرف اسی وقت منزل مقصود تک پہنچ سکتے تھے جب انہیں مسلح آدمیوں کے ذریعے حکومت کی حمایت حاصل ہو۔ دوسری طرف قبائلی جھڑپوں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جس میں ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ آور نہ ہوا اور قتل و غارگیری کا بازار گرم نہ ہوتا ہو۔ روزانہ کئی افراد موت کے گھاث اتر جاتے تھے نادانی اور بے علمی نے

پورے عراق کو عجیب طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ واقعات قرون وسطی میں پادریوں کے دور کی یاد تازہ کر رہی تھے۔ صرف نجف اور کربلا کے علماء اس سے مستثنی تھے یا پھر کسی قدر طالب علم یا وہ لوگ جس کا ان علماء سے میل جوں تھا و گرنہ سب کے سب جا بل تھے۔ ملکی اقتصاد کا پہیہ جام ہو گیا تھا اور بیماری، بیروزگاری، جہالت اور بد بخیتوں نے شدت سے متواتر لوگوں کو گھر دیکھ لیا تھا۔ مملکت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ ہر طرف ایک بہنگام بپا تھا حکومت اور عوام کے درمیان مفاہمت کی کمی تھی اور وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے تھی۔ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں تھا۔ علمائے دین، مسائل میں اس طرح غرق تھی۔ کہ دنیا کی زندگی ان کی نظروں سے او جھل ہو گئی تھی۔ زمین خشک اور کھیتیاں اجاز تھیں۔ دجلہ و فرات کے دونوں دریا کھیتیوں کو سیراب کرنے کی بجائے ایک آشفة سرمهان کی طرح پیاسی زمینوں کے بیچ سے بسرعت گزر رہے تھے۔ ملک کی یہ آشفة حالی یقیناً ایک انقلاب کا پیش خیمه تھی۔

مختصر یہ کہ میں نے کربلا اور نجف میں چار مہینے گزارے۔ نجف میں، میر ایک ایسی بیماری میں بستلا ہوا کہ جینے کی آس ٹوٹ گئی۔ تین ہفتے تک میری حالت بہت بری ہو گئی۔ آخر کار مجھے شہر کے ایک ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑا۔ اس نے میرے لیے کچھ دوائیں تجویز کیں جن کے استعمال سے میں بتر تر بہتر ہوتا چلا گیا۔ اس سال گرمی بھی بڑی شدید اور ناقابل برداشت تھی اور میں نے اپنی بیماری کا تمام وقت ایک تہہ خانے میں گزارا جو کسی قدر پر سکون اور رُخنداد تھا۔

میرا مالک مکان میرے دیے ہوئے مختصر پیسے سے میرے لیے دوا دار و اور کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زواروں کی خدمت کو تقریب الہی کا ذریعہ سمجھتا تھا۔ بیماری کے ابتدائی دنوں میں میری غذامرغ کا سوپ تھا لیکن بعد میں ڈاکٹر کی اجازت سے میں نے گوشت اور چاول بھی استعمال کرنا شروع کیا۔ بیماری سے کسی

قد رافاقہ کے بعد میں بغداد روانہ ہوا اور وہاں جا کر میں نے کربلا، نجف، حلہ اور بغداد سے متعلق اپنے مشاہدات کو تقریباً سو صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ میں نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے لیے رقم کیا اور لندن بھیجنے کے لیے اسے بغداد میں مذکورہ وزارت کے نمائندہ کے سپرد کیا اور اپنے رکنے والندن واپس جانے سے متعلق نئے احکامات کے انتظار میں بیٹھا رہا۔

یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ میں واپسی کے لیے بہت بے چین تھا کیونکہ اپنے دیس، خاندان اور عزیز واقارب سے چھوٹے مجھے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ خاص طور پر رہ رہ کر راسپوٹین کا خیال آ رہا تھا جو میری عراق روائی کے کچھ عرصے سے بعد ہی اس دنیا میں وارد ہوا تھا۔ اس نومولود کی یاد مجھے بہت بے چین کر رہی تھی۔ اسی باعث میں نے ایک درخواست میں ایک مختصر عرصے کے لیے واپس لندن آنے کی اجازت چاہی تھی۔ مجھے عراق میں تین سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ بغداد میں نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے نمائندہ کا اصرار تھا کہ میں بار بار اس کے پاس نہ جاؤں کیونکہ اس طرح ممکن ہے لوگ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگیں اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں دجلہ کے قریب ایک مسافرخانے کو اپناٹھا کانا بنایا۔ نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے نمائندہ نے کہا تھا کہ لندن سے جواب آتے ہی مجھے باخبر کر دیا جائے گا۔

بغداد میں اقامت کے دوران میں نے اس شہر کا عام حالتوں میں عثمانی حکومت کے پایہ تخت "قطنهنیہ" سے موازنہ کیا تو مجھے ان دونوں میں نمایاں فرق محسوس ہوا جو عربوں کی نسبت محثمنیوں کے برخلاف غلط اور گندگی کا مسکن بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔

بصرہ سے کربلا اور نجف پہنچنے کے چند ماہ بعد مجھے شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کا خیال آیا۔ میں اس کی طرف سے بڑا فکر مند تھا۔ میں نے اس پر بڑی محنت کی تھی لیکن مجھے اس پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ وہ متلوں مزاج واقع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ وہ غصے کا بھی بڑا تیز تھا اور ذرا ذرا سی بات پر آپ سے باہر ہو جایا کرتا تھا۔ ان خصوصیات کے پیش نظر مجھے دھڑکا

تھا کہ کہیں میری محنت اکارت نہ جائے اور جس خواہش کو میں ایک عرصہ سے اپنے سینے میں لیے پھر رہا تھا اس پر پانی نہ پھر جائے۔

جس دن میں بصرہ کی سمت روانہ ہو رہا تھا وہ ترکی جانے پر بضد تھا کہ وہاں جا کر اس شہر کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ میں نے بڑی سختی سے اسے اس سفر سے باز رکھا اور کہا مجھے ذر ہے کہ تم وہاں جا کر کوئی ایسی اللہ سیدھی بات نہ کر بیٹھو جس سے تم پر کفر والحاد کا الزام عائد ہو اور تمہارا خون رائیگاں جائے لیکن سچی بات یہ تھی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہاں جا کر وہ بعض علمائے اہلسنت سے کوئی رابطہ قائم کرے کیونکہ اس میں اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں وہ لوگ اپنی محکم دلیلوں کے ذریعے دوبارہ اسے اپنے جال میں نہ پھانس لیں اور میرے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں۔

جب میں نے دیکھا محمد بن عبد الوہاب نجدی بصرہ جانے پر مصر ہے تو مجبوراً میں نے ایران جانے پر ابھارا کہ وہاں جا کروہ شیراز اور اصفہان کی سیر کرے۔

یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان دونوں شہروں کے رہنے والے شیعہ نذہب کے پیروکار ہیں اور یہ بات بعید از قیاس تھی کہ شیخ ان کے عقائد سے متاثر ہو۔ مجھے اس بارے میں پورا اطمینان تھا کیونکہ میں شیخ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ رخصت کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا: ”تقبیہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟“ اس نے کہا ”درست ہے کیونکہ پیغمبر اکرم ﷺ کے ایک صحابی عمار، ان مشرکین کے ذرے جنہوں نے ان کے ماں باپ کو قتل کر دیا تھا اپنے آپ کو مشرک ظاہر کرتے رہے اور ختنی مرتبہ ﷺ نے جناب عمار یا سر رضی اللہ عنہ کی اس روشن کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔“

میں نے اس سے کہا، ”پس تم پر بھی واجب ہے کہ ایران جا کر تقبیہ کونہ بھولو اور اپنے آپ کو خالص شیعہ ظاہر کروتا کہ اعتراضات سے بچے رہو اور علماء کی صحبت بھی تمہیں حاصل

ربے اور ساتھی ایرانیوں کے آداب و رسوم بھی تم پر کھل جائیں کیونکہ آئندہ چل کر یہ معلومات تمہارے بہت کام آئیں گی اور تمہیں اپنے مقاصد میں بڑی کامیابی عطا کریں گی۔

اس نفلتو کے بعد میں نے اسے کچھ رقم "زکوٰۃ" کے عنوان سے دی۔ زکوٰۃ ایک طرح کا اسلامی نیکس ہے جسے سرمایہ داروں سے وصول کیا جاتا ہے تاکہ اس آمدنی کو امت کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے۔ جاتے ہوئے میں نے راستے ہی میں اسے ایک گھوڑا خرید کر دیا کیونکہ اس کی سخت ضرورت تھی اور پھر میں اس سے الگ ہو گیا اور اس دن سے اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے اور نہیں معلوم کہ اس پر کیا بیٹی ہو گی۔ مجھے زیادہ تشویش اس لیے بھی تھی کہ ہم نے بصرہ سے نکلتے وقت یہ طے کیا تھا کہ ہمیں واپس بصرہ ہی پہنچنا ہے اور اگر ہم میں سے کوئی وباں نہ پہنچ سکے تو اپنی کیفیت "عبد الرضا ترکھان" کو لکھ بھیجتا کہ دوسرا اس سے باخبر ہو مگر ابھی تک اس کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔

کچھ عرصہ انتظار کے بعد بالآخر آبادیاتی علاقوں کی وزارت سے ضروری احکامات بغداد پہنچے اور میری حکومت نے مجھے فوری طور پر طلب کیا۔ لندن پہنچتے ہی نو آبادیاتی علاقوں کی وزارت کے سیکرٹری اور علی عہدیداروں کے ساتھ ہم نے ایک کمیشن تشکیل دیا۔ میں نے اس جلسہ میں اپنے فرانس، اقدامات اور مطالعات پر بنی رپورٹ کو لندن حکام کے سامنے پیش کیا اور انہیں بین النہرین کی کیفیت سے بھی آگاہ کیا۔

عراق سے متعلق میری فراہم کردہ معلومات اور میری کارگزاریوں نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ پہلے بھی عراق سے میں نے کئی رپورٹیں ان کے لیے روانہ کیں تھیں۔ اور ان سب سے وہ مطمئن تھے۔ ادھر صفیہ نے بھی ایک رپورٹ بھیجی تھی جو پوری طرح میری رپورٹ کی تائید کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ وزارت خانہ نے میری گمراہی کے لیے کچھ مخصوص افراد میرے چھپے گار کئے تھے جو سفر و حضر میں مجھ پر نگاہ رکھتے

تھے۔ ان افراد نے بھی اپنی رپورٹوں میں میرے طرز عمل اور دلچسپی سے رضاہیت کا اظہار کیا تھا۔ اور ان رپورٹوں کی تصدیق کی تھی جو میں نے لندن بھیجیں تھیں۔ اس مرتبہ کلی طور پر میدان میرے ساتھ میں تھا۔ اور سب مجھ سے خوش تھے۔ یہاں تک کہ اس دور کے سیکرئری نے وزیر سے میری ملاقات کے لیے وقت لیا اور میں اس کے ساتھ وزیر سے ملنے گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وزیر کے چہرے پر ایک گونہ شکفتگی آگئی اور بڑے پر تپاک انداز میں خوش آمدید کہتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ یہ ملاقات گزشتہ کی بے جان ملاقاتوں سے یکسر مختلف تھی جو اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ میں نے اس کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر لی ہے۔

وزیر خاص طور میری اس مہارت کا معترض تھا جس کی بنیاد پر میں نے شیخ محمد بن عبدالوہاب کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس نے اپنی گفتگو کے دوران مجھ سے کہا تھا: ”محمد بن عبدالوہاب پر سلطانو آبادیاتی وزارت کا سب سے اہم مسئلہ تھا“۔ اس نے بڑی شدت سے یہ تاکید کی تھی کہ میں محمد بن عبدالوہاب کو ایک معظم منصوبے کے تحت ان امور سے آگاہ کروں جنہیں آئندہ چل کر اسے ہمارے لیے انجام دینا ہے۔ وہ بار بار اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ عظیم برطانیہ کے لیے میری تمام خدمات شیخ محمد بن عبدالوہاب جیسے شخص کی جستجو اور اس پر اپنا اثر و نفوذ قائم کرنے کے مقابلے میں پاسنگ بھی نہیں۔ نو آبادیاتی علاقوں کے وزیر کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں محمد بن عبدالوہاب کی گمشدگی کے بارے میں بڑا پریشان ہوں تو اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا: ”پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو کچھ شیخ کو پڑھایا تھا وہ ابھی تک اسے یاد ہے اور ہمارے آدمی اصفہان میں اس سے رابطہ قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی رپورٹوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ ابھی تک اپنی ذگر پر قائم ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا: شیخ نے اپنے اس غرور و نخوت کے ساتھ انگریز جاسوس کو کیونکر اجازت دی ہو گی کہ وہ اس بات کے بارے میں معلومات

ہمیرے کے اعتراضات..... فراہم کر سکیں۔ اس موضوع پر وزیر سے بات چیت کرتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں وہ برانہ مان جائے۔ بعد میں شیخ سے دوبارہ ملاقات پر مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا۔ اور اس نے تمام ماجرہ کہہ سنایا۔ اس نے بتایا کہ اصفہان میں اس کی دوستی عبدالکریم نامی ایک شخص سے ہوئی جو اپنے آپ کو اہل قلم طاہر کرتا تھا اور اس نے شیخ پر اپنا سکھ بٹھا کر اس کے تمام راز معلوم کر لیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی صفیہ بھی کچھ عرصے سے بعد اصفہان آئی اور اس نے مزید دو مہینے کے لیے شیخ سے متعہ کیا۔ شیراز کے سفر میں وہ اس کے ساتھ نہیں تھی بلکہ عبدالکریم نے اسے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ شیراز میں عبدالکریم نے شیخ کے لیے صفیہ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی کا انتظام کیا تھا اور وہ شیراز کے ایک یہودی خاندان کی حسین و جمیل لڑکی تھی جس کا نام آسیہ تھا۔ عبدالکریم اصفہان کے ایک مادر پدر آزاد عیسائی کا ایک فرضی نام تھا اور وہ بھی آسیہ کی طرح ایران میں برطانیہ نو کی آبادیاتی علاقوں کی وزارت کا ایک قدیم ملازم تھا۔

مختصر یہ کہ عبدالکریم، صفیہ، آسیہ اور میں نے مل کر اپنی رات دن کی کوششوں سے شیخ محمد بن عبدالوہاب کو نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کی خواہشات کے عین مطابق ڈھالا اور آئندہ کی پلانگ کو رو بہ عمل لانے کی ذمہ داری اٹھانے پر آمادہ کیا۔ یہاں یہ نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ وزیر سے ملاقات کے موقع پر سیکرٹری کے علاوہ وزارت کے دو اعلیٰ عہدیدار بھی وہاں موجود تھے۔ جنہیں اس وقت تک میں نہیں جانتا تھا۔ وزیر نے اجلاس کے اختتام پر مجھ سے کہا: ”اب تم انگلستان کی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے سب سے بڑے افتخاری نشان کے حق دار ہو اور وہ اعزاز یہ ہے جسے ہماری حکومت صفوی اول کے جاسوس کو دیا کرتی ہے۔“ واپسی پر اس نے قطعی انداز میں کہا: ”میں نے سیکرٹری سے کہہ دیا ہے کہ وہ تمہیں حکومت کے بعض ”پوشیدہ“ اور ”رازدارانہ“ مسائل سے آگاہ کرے تاکہ تم اپنی ذمہ داریوں کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دے سکو۔“

وزیر کی خوشنودی کے سبب میری دس دن کی چھٹی منظور ہوئی اور مجھے اپنی بیوی اور ایک عدد بچے سے ملنے کا موقع ملا۔ میرا لڑکا جواب تین سال کا ہو چکا تھا، بالکل میرا ہم شکل تھا اور بعض الفاظ بڑے میٹھے انداز میں بولنے لگا تھا۔ اس نے چلنا بھی سیکھ لیا تھا۔ میں حقیقتاً اپنے دل کے ٹکڑے کو زمین پر چلتا پھرتا محسوس کر رہا تھا۔ افسوس کہ خوشی کے یہ لمحات بڑی تیزی سے گزر رہے تھے۔ بیوی اور بچے کے ساتھ گزرنے والے لمحات واقعی ناقابل بیان ہیں۔ اور زندگی کی تمام لذتیں اس کے آگے بیج ہیں۔ میری ایک عمر رسیدہ چھپتی جس کی مجھ پر بچپن ہی سے نوازشات اور مہربانیاں رہی ہیں۔ میں اس سے مل کر کس قدر خوش ہوا، اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ میری اس سے یہ آخری ملاقات تھی اس لیے کہ دس دن کی چھٹیوں کے بعد جب میں تیسری مرتبہ اپنے سفر پر روانہ ہوا تو نہایت افسوس کے ساتھ مجھے اس کی موت کی اطلاع ملی۔

میری دس دن کی یہ چھٹیاں پلک جھکتے گزر گئیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ زندگی کے پرمسرت لمحات ہمیشہ بڑی تیزی سے گزرتے ہیں اور مصیبت کی گھڑیاں اپنے دامن میں سالوں کا فاصلہ رکھتی ہیں۔ لندن کے پرمسرت لمحات میں، میں نے اپنی نجف کی بیماری کو یاد کیا جس کا ہر لمحہ میرے لئے ایک صدی بن گیا تھا۔ میں کسی طرح بھی مصیبت کے ان ایام کو بھلانہیں سکتا۔ خوشی کے لمحات کو اتنا دوام نہیں کہ وہ مصائب کے دنوں کی کوفت کو یادوں کے درپھوں میں نہ آنے دیں۔ دس دن کی چھٹیاں منانے کے بعد آئندہ کے لائے عمل سے باخبر ہونے کے لئے بادل خواستہ وزارت خزانہ گیا۔ سیکرٹری سے ملاقات کے موقع پر میں نے اسے ہمیشہ کی طرح خوش و خرم پایا۔ اس نے مجھ سے بڑی گرجوشی کے ساتھ ہاتھ ملایا اور دوستانہ لہجہ میں کہا:

نوا آبادیاتی امور کے خصوصی کمیشن کی مرضی کے مطابق وزیر نے خود مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دواہم رموز سے آشنا کروں۔ ان رموز سے واقفیت آئندہ کے پروگراموں

میں تمہارے لئے بہت مفید ثابت ہوگی اور ان دو باتوں سے نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے صرف چند ایک ممبران ہی باخبر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ وزارت خانہ کے ایک کمرے میں لے گیا جہاں کچھ لوگ ایک گول میز کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں، لیکھ کر تعجب سے میری چیخ نکلتے رہ گئی۔

وزیر کے ساتھ میں جس کمرے میں گیا وہاں موجود افراد کی کیفیت کچھ یوں تھی کہ:
 (۱) ہو بہو سلطنت عثمانی کا جالالت افروز پیلر جو ترکی اور انگریزی زبانوں پر بڑی مہارت سے مسلط تھا۔

(۲) قسطنطینیہ کے شیخ الاسلام کی دوسری حقیقت سے قریب تصویر۔

(۳) شہنشاہ ایران کا زندہ مجسم۔

(۴) دربار ایران کے شیعہ علم کی مکمل شبیہ۔

(۵) نجف میں شیعوں کے مرجع کا بے مثل سراپا۔

یہ آخری تین افراد فارسی اور انگریزی زبانوں میں گفتگو کر رہے تھے۔ سب کے نزدیک ان کے پرانیویت سیکر نری بر اجمان تھے جو ان کی باتوں کا نوت بنائے رہا۔ رہاضر ہیں کہ لیے اس کا ترجمہ پیش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان تمام پرانیویت سیکر نریوں کا کسی زمانے میں مذکورہ پانچ شخصیتوں سے بہت قریب کارابطہ رہ چکا تھا اور ان کی مکمل رپورٹ کے تحت ان پانچ ہم شبیہ افراد کو بعضیہ تمام عادات و خصائص کے ساتھ ظاہری و باطنی اعتبار سے اصلی افراد کی مکمل تصویر بنایا گیا تھا۔ یہ پانچوں سوانحی اپنے فرائض اور مقام و منصب سے بخوبی آشنا تھے۔ سیکر نری نے آغاز خن کرتے ہوئے کہا: ان پانچ افراد نے اصلی شخصیتوں کو بہرہ پ بھر رکھا ہے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور آئندہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ ہم نے استنبول، تہران اور نجف کی مکمل اطلاعات انہیں

ہم فریے کے اختراقات فراہم کردی ہیں۔ اب وہ اپنی بنتیت کذائی کو حقیقت پر محمول کیے بیٹھے ہیں اور اسی احساس کے ساتھ اپنی حاصل کردہ معلومات سے ہمارے سوالات کو جواب فراہم کرتے ہیں۔ ہماری جانچ پڑتاں کے مطابق ان کے ستر فیصد جوابات حقیقت کے عین مطابق یا یوں کہیے کہ اصلی شخصیتوں کے افکار سے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ سیکرٹری نے اپنی گفتگو کے دوران مجھے مخاطب کر کے کہا: ”اگر تم چاہو تو اس میں کسی کا امتحان لے سکتے ہو۔ مثال کے طور پر نجف کے شیعہ مرجع تقلید سے جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔“

میں نے کہا بہت اچھا اور فوراً ہی کچھ سوالات پوچھ دالے۔

میرا پہلا سوال یہ تھا: ”قبلہ و کعبہ! کیا آپ اپنے مقلدین کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ سنی عثمانی حکومت کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں اور ان کے خلاف اعلان جنگ کریں؟“ نقلی سونگی مرجع تقلید نے کچھ دیر سوچا اور کہا: ”میں مطلق جنگ کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ وہ سنی مسلمان ہیں اور قرآن کی آیت کہتی ہے کہ ”تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں،“ صرف اس صورت میں جنگ جائز ہے جب عثمانی حکمران ظلم و ستم پر اتر آئیں۔ ایسی حالت میں امر بالمعروف اور نبی عن لمکنکر کے تحت ان سے جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ وہ بھی اس وقت تک جب آثار ظلم زائل نہ ہو جائیں اور ظالم ظلم سے باز نہ آجائے۔“

میں نے پھر دوسرا سوال پوچھا: ”حضور والا! یہودیوں اور عیسائیوں کی نجاست کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ لوگ واقعی ناپاک ہیں؟“ اس نے کہا: ”ہاں، یہ دونوں فرقے مسلمانوں میں ہیں اور مسلمانوں کو ان سے دور رہنا چاہیے۔“

میں نے پوچھا: ”اس کی کیا وجہ ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”یہ دراصل مساویانہ سلوک کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ لوگ بھی ہمیں کافر گردانے ہیں اور ہمارے پیغمبر ﷺ کی تکذیب کرتے ہیں۔“

اس کے بعد میں نے پوچھا: ”پیغمبر اکرم ﷺ کی صفائی سے متعلق اتنی تاکیدات کے بعد صفائی ایمان کی علامت ہے، پھر کیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صحابہ مطہر اور تمام بازاروں میں اس قدر گندگی پھیلی رہتی ہے؟“

مرجع تقلید نے جواب دیا: ”بے شک اسلام نے صفائی اور سترائی کو ایمان کی دلیل جانا ہے مگر اس کا کیا کیا جائے کہ عثمانی حکومت کے اعمال کی بے توجہ اور پانی کی قلت نے یہ صورت پیدا کی ہے۔“

دلچسپ بات یہ تھی کہ اس بناؤٹی مرجع تقلید کی آمادگی اور حاضر جوابی نجف کے حقیقی مرجع تقلید کے عین مطابق تھی۔ فقط عثمانی حکومت کے اعمال کی بے توجہ کی بات اس نے اپنی طرف سے اس میں ملائی تھی کیونکہ نجف کے عالم کی زبان سے یہ جملہ نہیں سنائیا تھا۔ بہر حال میں اس ہم آہنگی اور مشابہت پر سخت تحریر تھا کیونکہ تمام جوابات بعینہ اصل مرجع تقلید کے بیانات تھے جسے اس نے فارسی میں پیش کیا تھا یعنی مرجع بھی فارسی ہی میں گفتگو کر رہا تھا۔

سیکرٹری نے مجھ سے کہا: ”دیگر چار افراد سے بھی چاہو تو سوال کر سکتے ہو۔ یہ چاروں افراد بھی تمہیں اصلی شخصیتوں کی طرح جواب دیں گے۔“

میں نے کہا کہ میں استنبول کے شیخ الاسلام احمد آفندی کے افکار اور بیانات سے بخوبی واقف ہوں اور اس کی باتیں میرے حافظے میں محفوظ ہیں۔ آپ کی اجازت سے میں اس کی ہم شکل سے گفتگو کروں گا۔ اس کے بعد میں نے پوچھا: آفندی صاحب! کیا عثمانی خلیفہ کی اطاعت واجب ہے؟“

اس نے کہا: ”ہاں میرے بیٹے! اس کی اطاعت، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرح واجب ہے۔“

میں نے پوچھا ”کس دلیل کی بنیاد پر؟“

اس نے جواب دیا: ”کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں سنی ہے کہ: ”خدا، اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔“

اَطِيْعُو اللَّهَ وَ اَطِيْعُو الرَّسُولَ اُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورۃ نساء، آیت ۵۹)

میں نے کہا: ”اگر خلیفہ اولی الامر ہے تو گویا خدا نے ہمیں یزید کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے کیونکہ وہ اس وقت کا خلیفہ تھا حالانکہ اس نے مدینے کی تاریجی کا حکم دیا تھا اور سبتو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا اور خداوند علیم کس طرح ولید کی اطاعت کا حکم دے گا جبکہ وہ شراب خور تھا؟“ نقلی شیخ الاسلام نے جواب دیا:-

”میرے بچے! یزید اللہ کی طرف سے مومنوں کا امیر تھا لیکن قتل حسین میں اس سے خطا ہو گئی تھی جس کے لیے بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی۔ مدینہ میں قتل و غارتگری کا سبب وہاں کے لوگوں کی سرکشی اور یزید کی اطاعت سے انحراف تھا جس میں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اب رہ گیا ولید تو اس میں شک نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا لیکن شراب میں پانی ملا کر پیتا تھا تاکہ اس کی مستی ختم ہو جائے اور یہ اسلام میں جائز ہے۔“

میں نے کچھ عرصہ قبل اتنبول میں حرمت شراب کے متعلق مسئلہ کو وہاں کے شیخ الاسلام شیخ احمد سے دریافت کر لیا تھا۔ اس کا جواب کچھ اختلاف کے ساتھ لندن کے اس نقلی شیخ کو ششوں کو سراہتے ہوئے سیکرٹری سے پوچھا: ”آخر سال کام سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟“ اس نے جواب دیا: ”اس طرہ ہم بادشاہوں اور سنی شیعہ علماء کے افکار اور ان کے میلان طبع ہے آشنائی حاصل کرتے ہیں۔ پھر ان مکالمات کو پڑھا جاتا ہے اور ان سے نتائج اخذ کیے جاتے ہیں اور پھر ہم علاقے کے دینی اور سیاسی مسائل میں دخل اندازی کرتے ہیں مثلاً اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں عالم یا فلاں بادشاہ علاقہ کی مشرقی سرحدوں میں ہم

سے مخاصمت پر اتر آیا ہے تو ہم اس کو ناکارہ بنانے کے لیے ہر طرف سے اپنی توانائیوں کو اس سمت میں مرکوز کر دیتے ہیں لیکن اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہمارا حقیقی دشمن کس مقام پر سرگرم عمل ہے تو ہمیں اپنی توانائیوں کو علاقہ کے پچھے میں پھیلنا پڑتا ہے۔ مذکورہ عمل ہمیں اس بات میں بھی مدد دیتا ہے کہ ہم اسلام کے احکام و فرائیں میں سے ایک فرد مسلم کے طرز استنباط کو سمجھیں اور زیادہ منطقی مطالب فراہم کریں اور اس کے عقائد کو باطل قرار دیں۔ اختلافات، تفرقی، گز بز اور مسلمانوں کے عقائد میں تزلزل پیدا کرنے کے لیے اسی طرح کے اقدامات بے انہما مؤثر پائے جاتے ہیں۔

اس کے بعد سیکرٹری نے مجھے ایک ہزار صفحوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب مطالعہ کے لیے دی۔ اس کتاب میں اصلی اور نقلی افراد کی گفتگو، تجزیہ اور مقابلوں کے نتائج سے متعلق اعداد و شمار درج تھے اور مجھے حاصل شدہ نتائج کی بنیاد پر اسلامی دنیا میں فوجی، مالی، تعلیمی اور مذہبی مسائل سے متعلق حکومت برطانیہ کے مرتب شدہ پروگراموں سے واقفیت حاصل کرنا تھی۔

بہر حال میں کتاب گھر لے گیا اور تین ہفتے کے عرصے میں بڑی توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک اس کا مطالعہ کیا اور مقررہ مدت میں نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کو واپس دے آیا۔ کتاب واقعی بڑی محنت سے تیار کی گئی تھی۔ اس میں صاحبان علم صاحبان سیاست اور اسلام کی دینی شخصیتوں کے عقائد و نظریات کے بارے میں اس خوبی سے بحث کی گئی تھی اور نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ پڑھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ ستر فیصد مباحث حقیقت پر منطبق تھے جبکہ ۳۰ فیصد میں اختلاف تھا۔ کتاب کے مطالعہ کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا کہ میری حکومت اپنے عمل میں کامیاب ہو گی اور مذکورہ کتاب کی پیشین گوئی کے مطابق سلطنت عثمانی ایک صدی سے کم عرصہ میں بہر حال ختم ہو جائے گی۔

سیکرٹری سے ملنے کے بعد مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نوآبادیاتی علاقوں کی

وزارت میں دنیا کے تمام ممالک کے لیے خواہ وہ استعماری ہوں یا نیم استعماری اس طرح شبیہ سازی یا نقلی روپ کا عمل بروئے کار لایا گیا ہے اور ان تمام ممالک کو پوری طرح استعمار کے شکنخ میں جکڑنے کے انتظامات کامل کیے گئے ہیں۔

سیکرٹری نے اپنی گفتگو کے دوران مجھ سے کہا تھا کہ وہ پہلا راز ہے جسے اس نے وزیر کے حکم کے مطابق مجھے بتایا ہے مگر دوسرے راز کو وہ مذکورہ کتاب کی دوسری جلد کے مطالعہ پر ایک ماہ بعد مجھے بتائے گا۔

میں نے دوسری کتاب لے کر اس کا مطالعہ شروع کیا۔ یہ کتاب پہلی کتاب کو مکمل کرتی تھی۔ اس میں اسلامی ممالک سی متعلق نئی اطلاعات زندگی کے مختلف مسائل میں شیعہ سنی عقائد و افکار جو حکومت کی کمزوری یا توانائی کو ظاہر کرتے تھی اور مسلمانوں کی پسمندگی کے اسباب وغیرہ پر گفتگو تھی۔ اس کتاب میں ان موضوعات پر بڑی سیر حاصل بحث کی گئی تھی اور مسلمانوں کے کمزور پہلوؤں یا طاقت کے ذرائع کو نمایاں کیا گیا تھا اور ان سے اپنے حق میں فائدہ اٹھانے کی تدابیر سمجھائی گئی تھیں۔ اس کتاب میں مسلمانوں کی جن کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا وہ یہ تھیں:

- (۱) شیعہ سنی اختلاف
- (۲) حکمرانوں کے ساتھ قوموں کے اختلافات
- (۳) ایرانی اور عثمانی حکومتوں کے اختلافات
- (۴) قبائلی اختلافات
- (۵) علماء اور حکومت کے عہدہ داروں کے درمیان غلط فہمیاں
- (۶) تقریباً تمام مسلمان ملکوں میں جہالت اور نادانی کی فراوانی۔
- (۷) فکری جمود اور تعصب، روزانہ کے حالات سے بے خبری، کام اور محنت کی کمی

(۸) مادی زندگی سے بے تو جہی، جنت کی امید میں حد سے زیادہ عبادت جو اس دنیا میں بہتر زندگی کے راستوں کو بند کر دیتی تھی۔

(۹) خود سفرمانواؤں کے ظلم و استبداد۔

(۱۰) امن و امان کا فقدان، شہروں کے درمیان سڑکوں اور راستوں کا فقدان، علاج معاہدے کی سہولتوں اور حفظ ان صحت کے اصولوں کا فقدان جس کی بنی پرت طاعون یا اس جیسی متعددی بیماریوں سے ہر سال آبادی کا ایک حصہ موت کی نذر ہو جاتا ہے۔

(۱۱) حکومتی دفتروں میں بد انتظامی اور قاعدے قوانین کا فقدان، قرآن اور احکام شریعت کے احترام کے باوجود عملی طور پر پاس سے بے تو جہی۔

(۱۲) شہروں کی ویرانی، آپاشی کے نظام کا فقدان، زراعت اور کھیتی باڑی کی کمی۔

(۱۳) پس مندہ اور غیر صحت مندانہ اقتصاد۔ پورے علاقے میں عام غربت اور بیماری کا دور دورہ۔

(۱۴) صحیح تربیت یافتہ فوجوں کا فقدان، اسلحہ اور دفاعی ساز و سامان کی کمی اور موجودہ اسلحہ کی فرسودگی۔

(۱۵) عورتوں کی تحقیر اور ان کے حقوق کی پامالی۔

(۱۶) شہروں اور دیہاتوں کی گندگی، ہر طرف کوڑے کر کٹ کے انبار۔

(۱۷) سڑکوں، شاہراہوں اور بازاروں میں اشیائے فروخت کے بکھرے ہوئے بے بنگم ڈھیر وغیرہ۔

مسلمانوں کے کمزور پہلوؤں کو گنانے کے بعد کتاب نے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ شریعت اسلام کا قانون مسلمانوں کی اس طرز زندگی سے رتی برابر میں نہیں کھاتا لیکن یہ بات ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اسلام کی حقیقی روح سے بے خبر رکھا

ہمفرے کے اعتراضات
جاءے اور انہیں حقائق دین تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس کے بعد کتاب نے بصورت فہرست ان ادعا و ادھار مات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا جو دین اسلام کے اصول و مبانی کو ظاہر کرتے تھے اور ان کی صورت یہ تھی۔

- (۱) وحدت، دوستی اور بھائی چارہ کی تاکید اور تفرقہ سے دوری۔
- (۲) تعلیم و تربیت کی تاکید۔
- (۳) جستجو اور افکار کی تاکید۔
- (۴) مادی زندگی بہتر بنانے کی تاکید۔
- (۵) زندگی کے مسائل میں لوگوں سے رائے مشورے کی تاکید۔
- (۶) شاہراہیں بنانے کی تاکید۔
- (۷) حدیث نبوی کی بنیاد پر تدریسی اور معالجہ کی تاکید۔

علوم کی چار قسمیں:

- (۸) علم فقہ، دین کی حفاظت کے لیے۔
- (۹) علم طب، بدن کی حفاظت کے لیے۔
- (۱۰) علم نحو، زبان کی حفاظت کے لیے۔
- (۱۱) علم نجوم، زمانے کی پہچان کے لیے۔
- (۱۲) آبادکاری کی تاکید۔
- (۱۳) اپنے کاموں میں نظم و ترتیب۔
- (۱۴) معاشی احکام کی تاکید۔
- (۱۵) جدید ترین اسلحہ اور جنگی ساز و سامان سے لیس فوجی تنظیم کی تاکید۔
- (۱۶) عورتوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے احترام کی تاکید۔
- (۱۷) صفائی اور پاکیزگی کی تاکید۔

ان اوامر کے تذکرہ کے بعد کتاب اپنے دوسرے باب میں اسلام کی طاقت و قوت کے سرچشمتوں کے پیشافت کے اسباب پر روشنی ڈالتی ہے اور انہیں تباہی سے دوچار کرنے کے لیے ترقی کی راہوں کے خلاف اقدامات کو نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کا نقطہ آغاز قرار دیتی ہے اور وہ ترقی کی راہیں یہ تھیں:

- (۱) رنگ و سل، زبان، تہذیب و تمدن اور قومی تعصبات کو خاطر میں نہ لانا۔
- (۲) سود، ذخیرہ اندوزی، بعلمی، شراب اور سود کے گوشت وغیرہ کی ممانعت۔
- (۳) ایمان و عقیدہ و نبیاد پر علمائے دین سے شدید محبت اور وابستگی۔ موجودہ خلیفہ کی نسبت عامۃ المسلمين کا احترام اور یہ عقیدہ کہ وہ پیغمبر کا جانشین اور اولی الامر ہے جس کی بنابر اس کے احکامات کی بجا آوری خدا اور رسول ﷺ کے احکامات کی بجا آوری ہے۔
- (۴) کفار کے خلاف و جوب جہاد۔
- (۵) غیر مسلموں کی ناپاکی پر منی اہل تشیع کا عقیدہ۔
- (۶) مختلف ادیان اور مذاہب پر اسلام کی بالادستی کا اعتقاد۔
- (۷) اسلامی سرزمین پر یہودی اور نصرانی عبادت گاہوں کی تعمیر کے بارے میں شیعہ حضرات کی ممانعت۔
- (۸) جزیرہ العرب سے تمام یہودیوں اور نصرانیوں کے انخلاء پر اکثر مسلمانوں کا اتفاق۔
- (۹) اشتیاق کے ساتھ نماز، روزہ اور حج کے فرائض کی انجام دہی میں مدد و مدد۔
- (۱۰) خمس کی ادائیگی کے بارے میں اہل تشیع کا عقیدہ اور علماء کی طرف سے مستحقین کو اس رقم کی تقسیم۔
- (۱۱) ایمان و اخلاص کے ساتھ اسلام کے دینی عقائد سے دچکپی۔

- (۱۳) گھریلو استحکام کے بنیادی مقصد کے ساتھ بچوں اور نوجوانوں کی روانی تعلیم و تربیت اور بچوں کے ساتھ والدین کے دائیٰ ارتباٹ کی ضرورت و اہمیت کا رجحان۔
- (۱۴) عورتوں کو پرده کی تاکید جوانہیں غیر شرعی روابط اور بد عملیوں سے روکتی ہے۔
- (۱۵) نماز با جماعت کی ادائیگی اور ہر جگہ کے لوگوں کا دن میں کئی مرتبہ ایک مسجد میں اٹھا ہونا۔
- (۱۶) پیغمبر اکرم، اہل بیت اور علماء کی زیارت گاہوں کی تعظیم اور ان مقامات کو ملاقات اور اجتماع کے مرکز قرار دینا۔
- (۱۷) سادات کا احترام اور رسول ﷺ کا اس طرح تذکرہ کرنا گویا وہ ابھی زندہ ہیں اور درود وسلام کے مستحق ہیں۔
- (۱۸) اسلام کے اہم اصولوں کے عنوان سے امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کا وجوب۔
- (۱۹) شادی بیاہ، کشرت اولاد اور تعداد ازدواج کا مستحب ہونا۔
- (۲۰) کافروں کی ہدایت پر اتنا ذور کہ اگر کوئی کسی کافر کو مسلمان کرے تو یہ کام اس کی لیے تمام دنیا کی دولت سے مفید ہو گا۔
- (۲۱) نیک عمل انجام دینے کی اہمیت: ”جو کوئی نیک عمل کی پیروی کرے گا اس کی لیے وہ جزا میں مخصوص ہیں۔ ایک خود اس نیک عمل کی اپنی جزا اور دوسرے اس نیک عمل کو انجام دیئے کی جزا۔“
- (۲۲) قرآن و حدیث کا بے انتہا پاس و احترام اور ثواب آخرت کے لیے ان پر عمل پیرا ہونے کی شدید ضرورت۔
- اسلام کے ان سرچشمہ ہائے قوت کے تذکرہ کے بعد کتاب کے اگلے ابواب میں دیانت کے ان محاکم ستونوں کو کمزور بنانے کے عملی راستوں پر بڑی محکم دلیلوں کے ساتھ گفتگہ کا، گہرا تھم، ۲۱، کرع بصیرت فہست ان اقدامات کی تاکید کی گئی تھی جن کے

ذریعے اسلامی دنیا کو کمزور بنایا جا سکتا تھا اور وہ یہ تھیں:

- (۱) بدگمانی اور سوءتفاہم کے ذریعے شیعہ اور سنی مسلمانوں میں مذہبی اختلافات پیدا کرنا اور دونوں گروہوں کی طرف سے ایک دوسرے کے خلاف اہانت آمیز اور تہمت انگیز باتیں لکھنا اور نفاق و تفرقے کے اس سودمند پروگرام کو رو بہ عمل لانے کے لیے بھاری اخراجات کی ہرگز پرواہ کرنا۔
- (۲) مسلمانوں کو جہالت اور علمی کے عالم میں رکھنا۔ کسی تعلیمی مرکز کے قیام کی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دینا۔ طباعت اور نشر و اشاعت پر پابندی عائد کرنا اور ضرورت پڑے تو عوامی کتاب خانوں کے مذرا آتش کرنا۔ بچوں کو دینی مدارس میں جانے سے روکنے کے لیے علماء اور مراجع دینی پر تہمتیں لگانا۔
- (۳) کاہلی پھیلانے اور زندگی کی جستجو سے مسلمانوں کو محروم کرنے کے لیے موت کے بعد کی دنیا میں رنگ آمیزی اور جنت کی ایسی توصیف بیان کرنا تاکہ وہ مجسم بن کر لوگوں کے ذہن و قلب پر چھا جائے اور وہ اس کا حاصل کرنے کے لیے اپنی معاشی تگ و دو سے دشبردار ہو جائیں اور ملک الموت کے انتظار میں بیٹھے رہیں۔
- (۴) ہر طرف دردیشوں کی خانقاہوں کو پھیلاو اور ایسی کتابوں اور رسالوں کی طباعت جو لوگوں کو دنیا و ما فیہا سے برگشتہ کر کے انہیں مردم بیزاری اور گوشہ نشینی کی طرف مائل کریں جیسے غزالی کی احیاء العلوم، مولانا روم کی مشنوی اور محی الدین عربی کی کتابیں وغیرہ۔

نوت : (ان کتابوں کے بارے میں لکھنے والے کافی صدر بے علمی یا بد نتی پر منی ہے۔ غزالی جیسے متکلمین یا محی الدین عربی اور مولانا جلال الدین رومی جیسے عرفاء کی بیان کردہ تعلیمات عملی اخلاق کا ایک سلسلہ ہے۔ نفس کے تزکیہ و تہذیب کو گوشہ نشینی اور مردم بیزاری سے تعبیر کرنا قطعاً درست نہیں۔) (مترجم)

- (۵) خود خواہ حکمرانوں کی حقانیت کے ثبوت میں مختلف احادیث کی اشاعت مثلاً :
- ”بادشاہ زمین پر اللہ کا سایہ ہے“ - یا پھر یہ دعویٰ کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، بنی امية اور بنی عباس سب کے سب بالجبر تلوار کے زور سے حکومت کے منصب پر فائز ہوئے اور بزر شمشیر حکمرانی یا سقینہ کی کارروائی کو ایک تماشے کی صورت میں پیش کرنا جس کی ذوری حضرت عمر (رضی اللہ عنہ) بنے تمام رکھی ہوا اور اس بارے میں دلائل قائم کرنا جیسے حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کے طرف داروں خاص طور پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہراء (رضی اللہ عنہا) کے گھر جانا نیز یہ ثابت کرنا کہ :
- (۱) حضرت عمر کی خلافت، ظاہر احضرت ابو بکرؓ وصیت اور باطنًا مخالفین کو ڈرا دھرم کا کر عمل میں لائی گئی۔
- (۲) حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کی مخالفت کی بنیاد پر حضرت عثمان کے انتخاب میں ڈرامائی طور پر شوریٰ کی تشكیل، جو بالآخر مخالفت، شورش، خلیفہ سوم کے قتل اور حضرت علی کی خلافت پر منتج ہوئی۔
- (۳) مکروحیلہ اور شمشیر کے ذریعے معاویہ کا بر سر اقتدار آتا اور اسی صورت میں اس کی جانشینوں کا استقرار۔
- (۴) ابو مسلم کی قیادت میں سفاح کی مسلح شورش اور بزر شمشیر خلافت بنی عباس کا قیام۔
- (۵) حضرت ابو بکر سے لے کر عثمانیوں کی حکمرانی کے اس دور تک تمام خلفاء اسلام آمر تھے اور یہ کہ :
- نظام اسلام میں ہمیشہ آمریت کا دور دورہ رہا ہے۔
- (۶) راستوں میں بد امنی کے اسباب فراہم کرتا۔ بد اندیش افراد کی مدد سے شہروں اور دیہاتوں میں فتنہ و فساد برپا کرتا اور غنڈوں فسادیوں اور ڈاکوؤں کی پشت پناہی کرتا اور انہیں اسلحہ اور رقم فراہم کر کے ان کی مدد کرتا۔

(۷) حفظان سخت کی کوششوں میں آڑے آٹا اور جبری اور قدری انکار کو ترجیح دینا اور یہ بتانا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں بھی اللہ کی دین ہے اور اس کا علاج بے سود ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیت پیش کرنا ”وَهیٰ ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے اور پیاس کی حالت میں سیراب کرتا ہے اور جب میں یہاں رہتا ہوں تو مجھے تند رسی عطا کرتا ہے۔“ (سورۃ شراء آیت ۸۰) وہی مارتا ہے اور جلاتا بھی ہے۔ (سورۃ شراء آیت ۸۱) شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ موت اور حیات بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہاں سے شفایا بی اور موت سے رہائی اس کی مشیت اور اس کے ارادہ کے بغیر قطعی ناممکن ہے اور یہ تمام رونما ہونے والے واقعات قضاۓ الٰہی ہیں۔

(۸) اسلامی ممالک کو فقر و افلas میں باقی رکھنا اور ان میں کسی قسم کا تغیر و تبدل یا اصلاح عمل کو جاری نہ ہونے دینا۔

(۹) فتنہ و فساد اور ہنگامہ آرائیوں کو ہوادینا اور اس عقیدہ کو لوگوں میں راسخ کرنا کہ اسلام محض عبادت اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ اور دنیا اور اس کے امور سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت ختمی المرتبت (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے جانشینوں نے کبھی ان مسائل میں پڑنے کی کوشش نہیں کی اور سیاسی اور اقتصادی تنظیم سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔

(۱۰) ادھر دیے ہوئے امور پر توجہ اقتصادی بدھالی اور غربت و بیکاری میں اضافہ کا باعث ہو گی مگر اس کے ساتھ ساتھ پسمندگی میں اضافہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسانوں کے غلہ کے ذہروں کو نذر آتش کیا جائے، تجارتی کشتیوں کو ڈبو دیا جائے، تجارتی جہاز اور صنعتی مراکز میں بڑے پیمانے پر آگ بھڑکائی جائے۔ دریاؤں کے بندتوڑ کر بستیاں ویران کی جائیں اور پینے کے پانی کو زہرآلود بنایا جائے تاکہ اس لحاظ سے علاقے والوں کی پسمندگی اور فقر و ہلاکت کا سامان فراہم کیا جاسکے۔

(۱۱) اسلامی حکمرانوں کے مزاج کو بدلا جائے اور ان میں شراب نوشی، جوئے بازی اور دیگر اخلاقی برائیاں پیدا کی جائیں۔ قومی خزانہ میں خورد برد اور لوت کھوٹ کی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ ان کے پاس اپنے دفاع، ملکی معیشت اور ترقیاتی امور کے لیے کوئی رقم باقی نہ رہے۔

(۱۲) ”مرد عورتوں پا حاکم ہیں“ (سورۃ ناء آیت ۳۲) یا ”عورتیں بدی کا پلا ہیں“ کی حدیث کے سہارے عورتوں کی تو ہین و تحقیر اور کنیزی کا پر چار کیا جائے۔

(۱۳) اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کی شہری اور دیہاتی بستیوں میں غلط امت اور گندگی کا سب سے بڑا سبب ان علاقوں میں پانی کی کمی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن طریقے سے گنجان آباد علاقوں میں پانی کی فراوانی روک دیں تا کہ ان علاقوں میں زیادہ کثرت سے گندگی میں اضافہ ہو۔

کتاب کے ایک اور باب میں مسلمانوں کی قوت و طاقت کو توزنے اور انہیں کمزور بنانے کے دیگر اصولوں پر بھی گفتگو کی گئی تھی جو چیز سے خالی نہیں: ایسے افکار کی ترویج جو قومی، قبائلی اور نسلی عصیتوں کو ہوادیں اور لوگوں کو گزشتہ قوموں کی تاریخ، زبان اور ثقافت کی طرف شدت سے مائل کریں اور وہ ماقبل اسلام کی تاریخی شخصیتوں پر فریفہ ہو جائیں اور ان کا احترام کریں۔ مصر میں فرعونیت کا احیاء، ایران میں زردوشیت اور بنین انہرین میں بابل کی بت پرستی ان ہی کی مثالیں ہیں۔ کتاب کے اس حصے میں ایک بڑے نقشے کا بھی اضافہ کیا گیا تھا جس میں ان مراکز کی نشاندہی کی گئی تھی جن میں سابق اللذ کر خطوط پر عملدرآمد ہو رہا تھا۔

(۱۴) شراب خوری، جوئے بازی، بدفلی اور شہوت رانی کی ترویج، سوئر کے گوشت کے استعمال کی ترغیب، ان کارگزاریوں میں یہودی، نصرانی، زردوشی اور صائبی اقلیتوں کو ایک دوسرے کے سات ہاتھ بٹانا چاہیے اور ان برائیوں کو

مسلم معاشرے میں زیادہ سے زیادہ فروع دینا چاہیے جن کے عوض نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت انہیں انعام و اکرام سے نوازے گی۔ اس کام کے لیے متعدد افراد کی ضرورت ہے جو کسی بھی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور شراب، جوأ، فاشی اور سُور کے گوشت کو جہاں تک ہو سکے لوگوں میں مقبول بنائیں۔ اسلامی دنیا میں انگریزی حکومت کے کارندوں کا یہ فریضہ تھا کہ وہ مال و دولت، انعام و اکرام اور ہر مناسب طریقے سے ان برائیوں کی پشت پناہی کریں اور ان پر عمل پیرا افراد کو کسی طرح کا گزندہ چہنچنے دیں اور مسلمانوں کو اسلامی احکامات اور اس کی اور ونوابی سے روگردانی کی ترغیب دیں کیونکہ احکام شرع سے بے تو جھی معاشرے میں بدنظمی اور افراطی کا سبب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں سود کی شدت سے مذمت کی گئی ہے اور اس کا شمار گناہان کبیرہ میں ہوتا ہے۔ پس لازم ہے کہ ہر حال میں سود اور حرام سودے بازی کو عام کرنے کی کوشش کی جائے اور اقتصادی بدحالی کو مکمل طور پر مضھل بنایا جائے۔ اس کام کے لیے ضروری ہے کہ سود کی حرمت سے متعلق آیات کی غلط تفسیر کی جائے اور اس اصول کو پیش نظر رکھا جائے کہ قرآن کے ایک حکم کی سرتاسری اسلام کے تمام احکام سے روگردانی کی تبرأت کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن نے جس سود کو منع کیا ہے وہ سود مرکب (یا سود در سود) ہے وگرنہ عام سود میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے: ”اپنے مال کوئی گناہ کرنے کی خاطر سود نہ کھاؤ“۔ (سورۃ آل عمران آیت ۱۳۰) اس بناء پر سود حرام نہیں ہے۔

(۲) علمائے دین اور عوام کے درمیان دوستی اور احترام کی فضا کو آبودہ کرنا اہم فریضہ ہے جسے انگلستان کی حکومت کے ہر ملازم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کام کے لیے دو باتوں کی اشد ضرورت ہے۔

(۱) ۵۰۰ نیا اسلام آشی کر رہا۔

(ب) نوآبادیانی طاقوں کی وزارت سے ملک بعض افراد و مہم دین کی صورت دین اور انہیں الاز بزرع نخورنی، نجف، کربلا اور استنبول کے حرمی اور دینی مقامات میں اگارنا، ہمارے دین سے لوگوں کا رشتہ تو زندگی کے لیے ایک راستہ پر بھی ہے کہ بچوں کو نوآبادیانی طاقوں کی وزارت سے پروردہ اموں سے مقابلہ نہ رہیت اور جائے۔ اس کام کے لیے ایسے اساتذہ کی ضرورت ہے جو بہرے نے تکمیل اور دین کا کوچہ جو علمی و فلسفی میں اور جنہیں میں میں وہ جدید علوم کی تدریس کے ضمن میں وہ جوانوں و مددے دین اور جنہیں ضرور سے منفرد کریں اور ان کی اخلاقی برائیوں اور عملہ وزیر و تبعیں وہیں آپ۔ آپ کے ساتھ بیان کریں اور یہ تما میں کہ وہ اس طرز توبی سے ہے وہیں میں شجاع و خذر کرتے ہیں اور ان میں کسی پہنچ سے اسلامی بحث نہیں پہنچتا۔

(د) وجوب جہاد کے عقیدے میں تزلزل ہوا اکرمہ اور یہ ہابت کر رہا کہ جب دعویٰ صدر الاسلام کے لیے تھا کہ غالغوں کی سرکوبی کی جائے عمران اور قصہ ضرورت نہیں ہے۔

(۶) کافروں کی پلیدی اور نجاست سے متعلق مہمتوں جو نامہ طور پر شہید مظہرات، عقیدہ ہے، ان مسائل میں سے ہے جسے مسلمانوں کے ذہن سے خارج ہو جانا چاہیے اور اس کے لیے قرآن اور حدیث سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یہ آہت جس میں کہا گیا ہے کہ "اہل کتاب جو کہا ہے کہ انتہی وہ تم پر طالب ہے اور جو تم حاصل ہے اور پاک و امن ہو تو تم پر طالب ہے اور جو تم حاصل ہے اور مسیح ایضاً اور مسیحی ہو تو تم پر طالب ہیں۔" کہا رسول ارشاد نے صنیل اور مارپیٹ ایسی پیروی اور سکھی ہو تو سے شادی نہیں کی جسی؟ اور کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ (نحوہ احمد) رسول ارشاد کی یہ ہیں نہیں جسی؟

(۷) مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی چاہیے کہ دین سے حضرت ختمی مرتبت ﷺ کی مراد صرف اسلام نہیں بلکہ جیسا کہ قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے دین میں اب کتاب یعنی یہود و نصاریٰ بھی شامل ہیں اور تمام ادیان کے پیروکاروں کو مسلمان کہا جائے گا۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس دنیا سے مسلمان جائیں۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی بھی یہی تمنا ہے کہ ”پروردگار ہم دونوں کو مسلمانوں کے زمرہ میں اور ہمارے خاندان کو امت مسلمہ قرار دے“، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزندوں سے کہتے ہیں: ”نہ مرننا مگر حالت اسلام میں۔“۔

(۸) دوسرا اہم موضوع کلیساوں اور کنیساوں کے اسباب سے متعلق ہے۔ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کی روشنی میں لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ اب کتاب کی عبادت گاہیں محترم ہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے: ”اگر خداوند عالم لوگوں کو منع نہ فرماتا تو لوگ نصاریٰ کے کلیساوں، یہودیوں کے کنیساوں اور زرد تشتیوں کے آتشکدوں کو تباہ و بر باد کر دیتے“، (سورۃ حجج آیت ۳۰) اس آیت سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اسلام میں عبادت گاہیں محترم ہیں اور انہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔

(۹) دین یہود سے انکار پر منی چند حدیثیں جناب رسالت ﷺ سے نقل کی گئی ہیں مثلاً یہودیوں کو جزیرہ العرب سے باہر نکال دو یا جزیرہ العرب میں دو متفاوت ادیان کی گنجائش نہیں، ہمیں ہر حال میں ان احادیث کی تردید کرنی چاہیے اور یہ تمنا چاہیے کہ اگر یہ احادیث صحیح ہوتیں تو حضرت ختمی مرتبت ﷺ کبھی یہودی عورت سے شادی نہ کرتے۔

(۱۰) لازم ہے کہ مسلمانوں کو عبادت سے روکا جائے اور اس کے وجوب کے بارے میں ان کے دلوں میں شکوک پیدا کیے جائیں۔ خاص طور سے اس نکتہ پر زور دیا جائے کہ خداوند عالم بندوں کی عبادت سے بے نیاز ہے۔ حج ایک بیہودہ عمل

قرار دیا جائے اور مسلمانوں کو شدت کے ساتھ مکہ جانے سے روکا جائے۔ اس طرح مجالس اور اس سلسلہ کے تمام اجتماعات پر پابندی لگائی جائے۔ یہ اجتماعات ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں اور انہیں شدت کے ساتھ روکنا ضروری ہے۔ مساجد، ائمہ دین کے مزارات، امام بارگاہوں اور مدرسوں کی تعمیرات پر بھی بندش عائد کی جائے۔

(۱۱) خس اور غنائم جنگی کی تقسیم بھی اسلام کی تقویت کا ایک سبب ہے۔ خس کا تعلق یعنی دین، تجارتی اور کار و باری منافع سے نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس رقم کی ادائیگی پیغمبر اکرم ﷺ اور اماموں کے زمانے میں واجب تھی لیکن اب علمائے دین کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اس رقم کو حاصل کریں۔ خاص طور پر جبکہ یہ لوگ اس رقم سے ذاتی فائدے حاصل کرتے ہیں اور اپنی لیے بھیز بکریاں، گائے، گھوڑے، باغات اور محلات خریدتے ہیں۔ اس اعتبار سے شرعاً خس کی رقم ان کے لیے جائز نہیں ہے۔

(۱۲) لوگوں کو بروگشتہ کرنے کے لیے یہ ظاہر کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام فتنہ و فساد اور ابتری اور اختلافات کا دین ہے اور اس کے ثبوت میں اسلامی ممالک میں رونما ہونے والے واقعات کو پیش کرنا چاہیے۔

(۱۳) اپنے آپ کو تمام گھر انوں میں پہنچا کر باپ بیٹوں کے تعلقات کو اس حد تک بگاڑا جائے کہ بزرگوں کی نصیحت بے اثر ہو جائے اور لوگ آمریت کی تہذیب و تمدن کا شکار ہو جائیں۔ اس صورت میں ہم نوجوانوں کو ان کے دینی عقائد سے منحرف کر کے انہیں علماء سے دور رکھ سکتے ہیں۔

(۱۴) عورتوں کی بے پر دگی کے بارے میں ہمیں سعی بلیغ کی ضرورت ہے تاکہ مسلمان عورتیں خود پر دہچھوڑنے کی آرزو کرنے لگیں۔ اس سلسلے میں ہمیں تاریخی دلائل پشوابد کا بہار اعلیٰ کریمہ ثابت کرنا ہو گا کہ پر دہ کار و ارجمندی عباس کے دور سے ہوا

اور یہ ہرگز اسلام کی سنت نہیں ہے۔ لوگ رسول اکرم ﷺ کی بیویوں کو بغیر پردہ دیکھتے رہے ہیں۔ صدرالاسلام کی عورتیں زندگی کے تمام شعبوں میں مردوں کے شانہ بٹانے رہی ہیں۔ ان کوششوں کے باراً درہونے کے بعد ہمارے ساتھیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ نوجوانوں کو نامشروع جنسی روابط اور عیاشیوں کی ترغیب دیں اور اس طرح برائیوں کو اسلامی معاشرے میں رواج دیں۔ ضروری ہے کہ غیر مسلم عورتیں پوری بے پردگی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلم معاشرے میں پیش کریں تاکہ مسلمان عورتیں انہیں دیکھ کر ان کی تقلید کریں۔

(۱۵) جماعت کی نماز سے لوگوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ائمہ و جماعت پر الزام تراشیاں کی جائیں اور ان کے فرق و فجور پر مبنی دلائل پیش کیے جائیں تاکہ لوگ ان سے تنفر ہو کر ان سے اپنا رابطہ توڑ لیں۔

(۱۶) ہماری دشواریوں میں سے ایک بڑی دشواری بزرگان دین کے مزاروں پر مسلمانوں کی حاضری ہے۔ ضروری ہے کہ مختلف دلائل سے یہ ثابت کیا جائے کہ قبروں کو اہمیت دینا اور ان کی آراء ثابت پر توجہ دینا بدعت اور خلاف شرع ہے اور ختمی مرتبہ ﷺ کے زمانہ میں مردہ پرستی اور اس قسم کی باقی مراجح نہیں تھیں۔ آہستہ آہستہ ان قبروں کو سما کر کے ان کی زیارت سے لوگوں کو مشتبہ کیا جائے۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ حضرت ختمی مرتبہ ﷺ مسجد النبی میں محفوظ نہیں ہیں بلکہ اپنی والدہ گرامی کی قبر میں سور ہے ہیں اور اسی طرح تمام بزرگان دین کے بارے میں کہا جائے کہ وہ ان مقامات پر نہیں جن مقامات کو ان سے منسوب کیا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر و عمر دونوں جنت البقیع میں محفوظ ہیں۔ حضرت عثمان کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت علی کی آرامگاہ بصرہ میں اور وہ قبر جونجف اشرف میں مسلمانوں کی زیارت گاہ ہے دراصل اس میں مغیرہ بن شعبہ و فن ہیں۔ امام

حسین (رضی اللہ عنہ) کا سر اقدس مسجد "خانہ" میں دفن ہے اور آپ کے جسد اقدس کی تدفین کے بارے میں صحیح اطلاع نہیں ہے۔ کاظمین کی مشہور زیارت گاہ میں امام مویٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقیٰ علیہ السلام کی بجائے دو عباسی خلیفہ دفن ہیں۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام نہیں بلکہ ہارون الرشید دفن ہے۔ سامرہ میں بھی امام تقیٰ علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی بجائے عباسی خلفاء دفن ہیں۔ ہمیں بقیع کے قبرستان کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خاک کے یکساں ہو جائے اور تمام اسلامی ممالک کی زیارت گاہیں ویرانوں میں بدل دئی جائیں۔

(۱۷) خاندان رسالت سے اہل تشیع کی عقیدت و احترام ختم کرنے کے لیے جھوٹے اور بناؤٹی سادات پیدا کیے جائیں اور اس کام کے لیے ہمیں چند تنخواہ دار افراد کی ضرورت ہے جو عمماں کے ساتھ لوگوں میں ظاہر ہوں اور اپنے آپ کو اولاد رسول سے نسبت دیں۔ اس طرح وہ لوگ جوان کی حقیقت سے واقف ہیں آہستہ آہستہ حقیقی سادات سے برگشتہ ہو جائیں گے اور اولاد رسول پرشک کرنے لگیں گے۔ دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم حقیقی سادات اور علمائے دین کے سروں سے ان کے عملاء میں اتردا جائیں تاکہ پغمبر خدا ﷺ سے والٹگی کا سلسلہ ختم ہو اور لوگ علماء کا احترام چھوڑ دیں۔

(۱۸) امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے مرکز کو ختم کر کے ان کو ویران کر دیا جائے اور یہ کام مسلمانوں کی گمراہی کی راہ سے روکنے اور دین کو بدیختی اور تابودی سے بچانے کے عنوان سے ہوتا چاہیے۔ اپنی تمام کوششوں کو بروئے کار لا کر لوگوں کو مجالس عزا میں جانے سے روکنے کی کوشش کی جائی اور عزاداری کو بتدریج ختم کیا جائے۔ اس کام کے لیے امام بارگاہوں کی تعمیر اور علماء و ذاکرین کے انتخاب کی شرائط کو سخت بنایا جائے۔

(۱۹) آزاد خیالی اور چون و چہاں والی کیفیت کو مسلمانوں کے اذہان میں راسخ کرنا

چاہیے تاکہ ہرآدمی آزادانہ طور پر سوچنے کے قابل ہو اور ہر کام اپنی مرضی سے
انجام دے۔ امر بالمعروف اور نبی عن الممنکر واجب نہیں۔ احکام شریعت کی
ترویج کا عمل متروک ہونا چاہیے۔ اگر امر بالمعروف اور نبی عن الممنکر کو واجب
سمجھا جائے تو بھی یہ کام بادشاہوں کا ہے۔ عوام الناس کو اس میں کوئی دخل نہیں۔

(۲۰) نسل کو کنٹرول کیا جائے اور مرد کو ایک سے زیادہ بیوی اختیار کرنے کی اجازت نہ
دی جائے۔ نئے قوانین وضع کر کے شادی کے مسئلہ کو دشوار بنایا جائے مثلاً عرب
مرد ایرانی عورت سے اور ایرانی مرد کو عرب عورت سے شادی کی اجازت نہ دی
جائے۔ اس طرح ترک، ایرانیوں سے شادی نہیں کر سکیں گے۔

(۲۱) اسلامی تعلیم کی آفاقت کے مسئلہ کو محکم دلائل سے رد کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ
اسلام اصولاً دین ہدایت نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق صرف ایک قبیلہ اور ایک قوم
سے ہے جیسا کہ قرآن نے اقرار کیا ہے:

”یہ دین تمہارے اور تمہارے قبیلہ کی ہدایت کے لیے ہے“ (سورۃ زخرف آیت ۳۳)

(۲۲) مساجد، مدارس، تربیتی مرکز اور اچھی بنیادوں پر قائم ہونے والی تعمیرات سے
متعلق اسلام کی تمام سنتوں کو کالعدم یا کم از کم محدود کر دیا جائے۔ اس قسم کے
امور کا تعلق علماء سے نہیں بلکہ سربراہان مملکت سے ہے اور جب حکومتیں اس قسم کا
کام انجام دیں گی تو از خود ان کی دینی قدر و قیمت جاتی رہے گی۔

(۲۳) ضروری ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں کو جو در قرآن میں کمی بیشی کر کے لوگوں کو
شک میں بتلا کیا جائے۔ خاص طور پر کفار اور یہود و نصاریٰ کے بارے میں تو ہیں
آمیز آیات، امر بالمعروف اور جہاد سے متعلق آیتوں کو قرآن سے حذف کیا
جائے اور قرآن کو ترکی اور فارسی زبانوں میں ترجمہ کر کے بازاروں میں لایا جائے۔

غیر عرب مسلم حکومتوں کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں قرآن، اذان اور نماز کو عربی زبان میں پڑھنے سے پرہیز کریں۔ دوسرا مسئلہ احادیث و روایات میں تشکیل پیدا کرنا ہے اور قرآن کی طرح اس میں بھی تحریف و ترجمہ سے کام لینا ہے۔

مختصر یہ کہ اس دوسری کتاب میں بھی مجھے بڑی کار آمد چیزیں دکھائی دیں۔ اس کتاب کا نام ”اسلام تو یونکر صفحہ بستی“ سے منایا جائے گا، رکھا گیا تھا۔ اس میں وہ بہترین عملی پروگرام تھے جن پر مجھے اور میرے دیگر ساتھیوں کا کام کرنا تھا۔ اس کتاب نے مجھے پر بڑا اثر قائم کیا تھا۔ کتاب کے مطالعے کے بعد میں اسے واپس کرنے نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت پہنچا جہاں دوسری مرتبہ سیکرٹری سے میری ملاقات ہوئی۔ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا:

”جن امور کو تمہیں انجام دینا ہے اس میں تم اکیلی نہیں ہو بلکہ تقریباً پانچ ہزار سچے اور کھرے افراد مختلف گروہوں کی صورت میں تمام اسلام ممالک میں تمہاری مدد کے لیے آمادہ ہیں۔ نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کا خیال ہے کہ وہ کام کی پیشافت کے ساتھ ساتھ ان افراد کی تعداد میں اضافہ کر کے انہیں ایک لاکھ تک پہنچا دے۔ جب بھی ہمیں اس عظیم گروہ کی تشکیل میں کامیابی ہوئی یقیناً ہم تمام عالم اسلام پر چھا جائیں گے اور اسلامی آثار کو مکمل طور پر مٹا دیں گے۔“

سیکرٹری نے کہا:

”میں تمہیں یہ خوشخبری دیتا ہوں کہ ہم آئندہ ایک صدی میں اپنی مراد کو پہنچ جائیں گے اور اگر آج ہماری نسل اس کامیابی کو نہ دیکھ سکے گی تو ہماری اولاد میں ضرور یہ اچھے دن دیکھیں گی اور ایرانی ضرب المثل کتنی معنی خیز ہے جس میں کہا گیا ہے: ”کل دوسروں نے بویا ہم نے کھایا۔ آج ہم بور ہے ہیں کل دوسرے کھائیں گے۔“ جس وقت بھی عظیم برطانیہ یا (سمندروں کی ملکہ) کو اسلامی ممالک پر فتح مندی نصیب ہوئی دنیا کے مسیحیت ان تمام تکالیف سے نجات پا جائے گی جسے وہ بارہ (۱۲) صدیوں سے برداشت کر رہی ہے۔

مسلمانوں نے اس عرصہ میں ہم پر بڑی جنگیں مسلط کیں جن میں صلیبی جنگیں بطور مثال ہیں۔ یہ جنگیں بالکل مغلوں کی یلغار کی طرح بے مقصد تھیں کہ جہاں سوائے قتل و غارت گری، ویرانی و تباہی اور لوٹ مار کے، کوئی مقصد نہیں تھا لیکن اسلام کے خلاف ہماری جنگ مغلوں کی طرح محض فوجی کارروائیوں اور قتل و غارت گری پر منحصر نہیں ہے۔ ہمیں اس کام کو جدی بھی نہیں ہے۔ عظیم برطانیہ کی حکومت اسلام و مٹانے کے لیے پورے مطالعے کے ساتھ آگے بڑھے گی اور بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے عظیم کاموں کو برویکار لائے گی اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گی البتہ ہم ضروری موقع پر فوجی کارروائیوں سے بھی دریغ نہیں کریں گے مگر یہ اس صورت میں ہو گا جب ہم اسلامی حکومتوں پر پوری طرح چھا جائیں گے اور کچھ عناصر ہماری مخالفت پر اتر آئیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی بول کے حکمران بڑے بوشمندی اور فراست کے مالک ہیں اور اتنی جلد ہمیں اپنے پروگراموں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے لیکن ہمیں ابھی سے متوسط طبقے کے بچوں کو ان سکولوں میں تربیت دینا ہے جو ہم نے ان کے لیے قائم کیے ہیں۔ ہمیں ان علاقوں میں متعدد چرچ بھی بنانے ہیں۔ شراب، جوا اور شہوت رانی کو اس طرح پھیلانا ہے کہ نوجوان نسل دین و مذہب کو بھول جائے۔ ہمیں اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے درمیان اختلافات کی آگ کو بھی ہوادینا ہے بہ طرف ہرجن مرچ اور فتنہ کا بازار گرم کرنا ہے۔ ارکان حکومت اور صاحبان ثروت کو حسین و جمیل اور شوخ و چھل عیسائی عورتوں کی دام میں پھسانا ہے اور ان کی محفلوں کو ان پری وشوں سے رونق بخشا ہے تاکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی دینی اور سیاسی اقتدار سے باتھ دھو چیھیں۔ لوگ ان سے بدظن ہو جائیں اور اسلام کے بارے میں ان کا ایمان کمزور ہو جائے جس کے نتیجہ میں علماء، حکومت اور عوام کا اتحاد ٹوٹ جائے اور ایسے حالات میں جنگ کی آگ بھڑکا رہیں ممالک میں اسلام کی جزیں اکھاڑ پھینکیں گے۔

نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے سیکرٹری نے اس دوسرے راز سے بھی پرده اٹھایا جس کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں شدت سے جس کے انتظار میں تھا اور یہ وہ

قرارداد تھی جو حکومت برطانیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے منظور کی تھی۔ پچاس صفحات پر مشتمل یہ قرارداد نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کی اس سیاست کی آئینہ دار تھی جس کے ذریعے اسلام اور اہل اسلام کو ایک صدی کے اندر اندر نابود کرنا تھا۔ اس رسالہ کی پیشین گوئی کی مطابق اس عرصے کے بعد اسلام ساری دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور تاریخ میں اس کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ اس بات کی تختی سے تاکید کی گئی تھی کہ ۱۳ نکاتی قرارداد کے مضمون کو صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور یہ کسی عنوان سے ظاہر نہ ہونے پائے کیونکہ اس بات کا خط ہ تھا کہ مسلمانوں کو اس کی خبر ہو جائے اور وہ اس کی چارہ جوئی میں انہ کھڑے ہوں تاہم مختصر طور پر اس کا مسودہ کچھ یوں تھا:

(۱) تاجکستان، بخارا، ارمنستان، شامی خراسان اور ماوراء النہر اور روس کے جنوب میں

واقع مسلم آبادیوں پر اختیار حاصل کرنے کے لیے سلطنت روس سے وسیع پیمانے پر اشتراک عمل، اس کے علاوہ ایران کے سرحدی شہروں ترکستان اور آذربایجان پر تسلط حاصل کرنے کے لیے روس کے ساتھ اشتراک عمل۔

(۲) اسلامی حکومتوں کو اندر وہی اعتبر سے پوری طرح تباہ کرنے کے لیے ایک منظم پروگرام کی تشكیل میں روس اور فرانس کے سلاطین کے ساتھ اشتراک عمل۔

(۳) عثمانی اور ایرانی حکومتوں کے دیرینہ تناز نعمات کو ہوادینا اور ان کے درمیان قومی اور نسلی اختلافات کی آگ بھڑکانا۔ عراق اور ایران کے اطراف میں آباد قبیلوں میں قبائلی جنگیں اور شورشیں پیدا کرنا۔ ماقبل اسلام مذاہب کی تبلیغ کے پیروکاروں کو اسلام سے پھیردینا۔

(۴) اسلامی ممالک کے شہروں اور دیہاتوں کے بعض حصوں کو غیر مسلم اقوام کے حوالے کرنا مثلاً مدینہ یہودیوں کو، اسکندریہ عیسائیوں کو، یزد پارسیوں کو، عمارہ صائمپیوں کو، کرمان شاہ علی الدهیوں کو، موصل یزیدیوں کو اور بو شہر سمیت خلیج فارس

کے قرب و جوار کے علاقے بندوں کو سونپنا۔ ان دو آخراً ذکر علاقوں میں پہلے اہل بند کو بانا ضروری ہے۔ اس طرح لبنان میں واقع طرابلس دروزیوں کے، قارض علویوں کے اور مسقط خوارج کے حوالے کرنا۔ یہی نہیں بلکہ مادی امداد جنگی ساز و سامان اور فوجی اور سیاسی ماہرین کے ذریعے انہیں مضبوط بانا بھی ضروری ہے تا کہ کچھ عرصہ کے بعد یہ اقلیتیں اہل اسلام کی آنکھوں میں کھٹکنے لگیں اور اسلام کا پیکر آزدہ ہو جائے اور علاقے میں بترجمان کا اثر نفوذ مسلم حکومتوں کی تباہی کا سبب بن جائے اور اسلام کی ترقی پذیری میں رخنہ پڑ جائے۔

(۵) بندوستان کی ایرانی اور عثمانی حکومتوں میں بھی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا قیام عمل میں آئے اور پھر پھوٹ ڈالا اور حکومت کرو یا بہتر الفاظ: ”پھوٹ ڈالا اور مثادو“ کے قانون پر عمل کرتے ہوئے انہیں ایک دوسرے سے بھڑادیا جائے۔ اس صورت میں ایک طرف وہ آپس میں دست و گریباں ہوں گی اور دوسری طرف مرکزی حکومت سے بھی ان کے تنازعہ کا سامان فراہم رہے گا۔

(۶) ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلام دنیا میں لوگوں کے افکار سے ہم آہنگی رکھنے والے من گھرست عقائد و مذاہب کی تبلیغ مثلاً اہلبیت (علیہم السلام) سے بے انتہا عقیدت و احترام رکھنے والے شیعوں کے حسین اللہی مذهب، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات سے متعلق شخصیت پرستی، امام علی رضا علیہ السلام اور امام غائب (حضرت مہدی موعود) کے بارے میں مبالغہ آرائی اور بہشت امامی فرقہ کی ترویج۔ ہرمذہب کے لیے اس کے مناسب ترین مقام کی یہ صورت ہو گی: حسین اللہ فرقہ (کربلا) امام جعفر صادق کی پرستش (اصفہان) امام مہدی علیہ السلام کی پرستش (سامرہ) اور بہشت امامی مذهب (مشہد)۔ ان جعلی مذاہب کی تبلیغ و ترویج کا دائزہ صرف شیعہ مذهب تک، ہی محدود نہیں ہونا چاہیے

بلکہ اہل تسنن کے تمام فرقوں میں بھی اس قسم کے مذاہب کو ترویج دیا جانا چاہیے اور پھر ان میں اختلافات کو ہوا دے کر نفرت کا وہ نتیجہ بونا چاہیے کہ ان کا ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا مسلمان اور دوسرے کو کافر، مرتد اور واجب القتل سمجھے۔

(۷) زنا، لواط، شراب نوشی اور جواہر اہم امور ہیں جنہیں مسلمانوں کے درمیان راج کرنے کی ضرورت ہے۔ ان برئی عادتوں کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے علاقے کے ان لوگوں سے زیادہ مدد ممکن چاہیے جو ماقبل اسلام دیگر مذاہب سے وابستہ تھے اور خوش قسمتی سے ان کی تعداد کچھ کم نہیں ہے۔

(۸) اہم اور حساس عہدوں پر غلط کار اور ناپاک افراد کا تقرر اور اس بات پر توجہ کہ ریاستوں کی سربراہی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت سے وابستہ زندگی چاہیے تاکہ وہ انگلستان کی حکومت کے لیے کام کریں اور ان سے احکامات وصول کریں۔ پھر ان با اثر افراد کے ذریعے ہمارے مقاصد پوشیدہ طور پر قوت کے سہارے رو بعمل آئیں البتہ ان کے چنانچہ میں مسلم بادشاہوں کا ہاتھ ہوگا۔

(۹) غیر عرب مسلم ممالک میں عربی ثقافت اور زبان کے پھیلاؤ رونما اور اس کی بجائے سنسکرت، فارسی گروئی، پشتو، اردو اور قومی زبانوں کو ان سرزینیوں پر رانج کرنا تاکہ علاقائی زبانیں رواج پا کر عربی زبان بولنے والے قبائل میں اتر آئیں اور فصحیح عربی زبان کی جگہ اختیار کریں۔ اس طرح اہل عرب کا قرآن اور سنت سے رشتہ نوٹ جائے گا۔

(۱۰) حکومتی دفاتر میں مشوروں اور ماہروں کی حیثیت سے ب्रطانوی عمال اور جاسوسوں کی تعیناتی میں اضافہ، اس طرح اسلامی ممالک کے وزراء اور امراء کے فیصلوں میں ہمارا رنگ شامل رہے گا۔ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے بہتر راستہ یہ ہو گا کہ ہم پہلے ذیں اور معتمد غلاموں اور کنیزوں کو تعلیم و تربیت دیں اور پھر انہیں

حکمرانوں، شاہزادوں، وزیروں، امیروں اور اہم درباری عہدوں پر فائز با اثر افراد کے ہاتھوں بیج دیں۔ یہ غلام اپنی صلاحیتوں اور فہم و فراست کی بنیاد پر ان کے نزدیک اپنا مقام پیدا کریں گے اور آہستہ آہستہ انہیں مشاورت کا مقام حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح مسلم رجال میں ان کا ایک انسٹ نقش قائم ہو جائے گا۔

(۱۱) مسلمانوں کے مختلف طبقوں خاص طور پر ڈائرنزروں، انجینئروں، حکومت کے مالی امور سے وابستہ عہدہ داروں اور ان جیسے دیگر روشن فکر افراد میں مسیحیت کی تبلیغ و ترویج، کلیساوں، خصوصی اسکولوں اور کلیسا سے وابستہ شفاخانوں کی تعداد میں اضافہ، تبلیغی کتب و رسائل کی نشر و اشاعت اور متوسط طبقہ کے لوگوں میں ان کی مفت تقسیم تاریخ اسلام کے مقابلہ پر تاریخ مسیحیت کی نگارش کا اہتمام، مسلمانوں کے حالات و کیفیات اور ان میں حکومت برطانیہ کے عمال اور جاسوسوں کا تقریب اپنے عمل اسلامی ممالک میں ذریعہ کیا ہو گی۔ ان عالم نما یسائیوں میں بعض کا کام یہ ہو گا کہ وہ مستشرق اور اسلام شناس بن کر تاریخی حقائق میں تحریف کریں اور انہیں برعکس دکھانے کی کوشش کریں اور پھر دلائل کی فراہمی اور اسلامی ممالک سے ضروری اطلاعات حاصل کرنے کے بعد ایسے مقالے تیار کریں جو اسلام کے نقصان اور یسائیت کے فائدے میں ہوں۔

(۱۲) مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں میں خودسری اور مذہب سے بیزاری کی ترویج اور انہیں اسلام کے اصول و مبانی کی سچائی کے بارے میں بدظن کرنا اور یہ کام مشنری اسکولوں، اخلاق باختہ اور اسلام دینی کتابوں، عیش و نوش اور خوش باشی کا سامان فراہم کرنے والے کلبوں اور غلط بنیادوں پر استوار مسلم اور غیر مسلم نوجوانوں کو پہنانے کے لیے یہودی اور مسیحی نوجوانوں کی شرکت سے خفیہ انجمنوں کی تائیں۔

(۱۳) اسلام کو کمزور کرنے، مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے اور انہیں زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچنے اور ترقی کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اسلامی ممالک میں اندرونی اور بیرونی طور پر شورشیں پیدا کرنا اور مسلمانوں کو ایک دوسرے یا پھر دیگر ادیان کے پیروکاروں سے بھڑائے رکھنا۔ قومی دولت، مالی ذخائر اور فکر و فہم کی قوتیں کوتباہی سے دوچار کرنا، مسلمانوں میں روح عمل اور ولولہ انگلیزی کو ختم کرنا اور ان میں انتشار پیدا کرنا۔

(۱۴) اسلامی ممالک کے اقتصادی نظام کو درہم برہم کرنا جس میں زراعت اور آمد فی کے تمام ذرائع شامل ہیں۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بندوں میں شگاف پیدا کرنا، دریاؤں میں ریت کی سطح اوپنجی کرنا، لوگوں میں سستی، ہل انگاری اور تن آسانی کو فروغ دینا، پیداوار اور تولیدی امور کی طرف سے لوگوں کی بے تو جبی کو تقویت دینا اور عوام کو منشیات کا عادی بنانا ضروری ہے۔ (۱)

اس بارے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مذکورہ چودہ نکات انتہائی شرح و سطح کے ساتھ ضبط تحریر میں لائے گئے تھے اور ان کے ساتھ نقشے، علامتیں اور تصویریں بھی تھیں۔ میں نے یہاں اشارتاً ان کی نشاندہی کی ہے۔ مختصر یہ کہ نوآبادیاں علاقوں کی وزارت کے سیکرٹری سے اس بھروسے کی بنیاد پر جو اس نے میرے ذات سے وابستہ کر رکھی تھی اور جس کے زیر اثر اس نے مجھے اتنی اہم اور خفیہ کتاب پڑھنے کو دی تھی میں دوسری بار بعد احترام اظہار تشکر کیا اور مزید ایک مہینے لندن میں رہا۔ اس کے بعد وزیر کی طرف سے مجھے عراق جانے کا حکم ملا۔ میرا یہ سفر اس مقصد کے لیے تھا کہ میں محمد بن عبدالوہاب کو نئے دین کے اظہار کی دعوت پر آمادہ کروں۔ سیکرٹری نے بار بار مجھے تاکید کی کہ میں اس کے ساتھ

(۱) اگر بنظر غائرہ کھا جائے تو آج مسلمان زیادہ تر سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں اور یہی چیز تزلی کا باعث بن رہی ہے۔

بڑی رعایت اور ہوشیاری کے ساتھ پیش آؤں اور مقدمات امور کی آمادگی میں ہرگز حد اعتماد سے آگئے نہ بڑھوں کیونکہ عراق و ایران سے موصول ہونے والی روپرٹوں کی بنیاد پر سیکرٹری کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ محمد بن عبدالوہاب قابل بھروسہ اور نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے پر گراموں کو رو بعمل لانے کے لیے مناسب ترین آدمی ہے۔

اس کے بعد سیکرٹری نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا:

”تمہیں محمد بن عبدالوہاب کے ساتھ بالکل واضح اور دوڑوک الفاظ میں گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہمارے عمال اصفہان میں اس سے بڑی صراحة کے ساتھ پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں اور وہ ان باتوں کو مان چکا ہے مگر اس شرط کی ساتھ کہ اسے عثمانی حکومت کے مقامی عمال، علماء اور متعصب لوگوں کے ہاتھوں آنے والے خطرات سے بچالیا جائے اور اس کی حمایت اور تحفظ کا بھرپور انتظام کیا جائے کیونکہ اس کی دعوت کے ظاہر ہوتے ہی ہر طرف سے اسے ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور خطرناک صورتوں میں اس پر حملہ کیے جائیں گے۔“

حکومت برطانیہ نے شیخ محمد بن عبدالوہاب کو اسلحے سے اچھی طرح لیس کرنے کے بعد ضرورت کے موقع پر اس کی مدد کی تائید بھی کی تھی اور شیخ کی مرضی کے مطابق جزیرہ العرب میں واقع نجد کے قریب علاقے کو اس کی حاکیت کا پہلا مقام قرار دیا تھا۔

شیخ کی موافقت کی خبر سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور میں نے سیکرٹری سے صرف یہ سوال کیا کہ میری آئندہ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ مجھے اس کے بعد کیا کرنا ہوگا اور شیخ سے کس قسم کا کام لینا ہوگا۔ نیز یہ کہ میں اپنے فرائض کا کہاں سے آغاز کروں؟

سیکرٹری نے جواب دیا: نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے تمہارے فرائض کو بڑی وضاحت سے متعین کیا ہے اور وہ ان امور کی نگرانی ہے جسے شیخ کو تدریجیاً انجام دینا ہے، وہ یہ ہیں:
 (۱) اس کے مذہب میں شمولیت اختیار نہ کرنے والے مسلمانوں کی تکفیر اور ان کے مال، عزت اور آبرو کی بر بادی کو رو اسمجھنا، اس ضمن میں گرفتار کیے جانے والے مخالفین کو بردہ فروشی کی مار کیٹ میں غلام و کنیز کی حیثیت میں بیچنا۔

(۲) بت پرستی کے بہانے بصورت امکان خانہ کعبہ کا انہدام اور مسلمانوں کو فریضہ حج سے روکنا اور حاجیوں کے جان و مال کی غارت گری پر قبائل عرب کو اکسانا۔

(۳) عرب قبائل کو عثمانی خلیفہ کے احکامات سے سرتالی کی ترغیب دینا اور ناخوش لوگوں کو ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا۔ اس کام کے لیے ایک ہتھیار بند فوج کی تشکیل۔ اشراف حجاز کے احترام اور اثر و نفوذ کو توڑنے کے لیے انہیں ہر ممکن طریقے سے پریشانیوں میں بتلا کرنا۔

(۴) پیغمبر اسلام ﷺ، ان کے جانشینوں اور کلی طور پر اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کی اہانت کا سہارا لے کر اور اسی طرح شرک و بت پرستی کے آداب و رسوم کو منانے کے بہانے مکہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی زیارت گا ہوں اور مقبروں کی تاراجی۔

(۵) جہاں تک ممکن ہو سکے اسلامی ممالک میں فتنہ و فساد، شورش اور بد امنی کا پھیلاو۔

(۶) قرآن میں کمی بیشی پر شاہد آ حادیث و روایات کی رو سے ایک جدید قرآن کی نشر و اشاعت۔

سیکرٹری نے اپنے اس چھ نکاتی پروگرام کی تشرع کے بعد سے شیخ محمد بن عبد الوہاب کو انجام دینا تھا اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا:

”کہیں اس پروگرام کی دشواریاں تمہیں گھبراہٹ میں بتلانہ کر دیں۔ ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اسلام کی تباہی کا نتیجہ اس سرز میں پر بکھیر دیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں اس راہ پر آگے بڑھیں اور کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ سکیں۔ برطانیہ کی حکومت ہماری اس صبر آزماء داراز مدت کو ششوں سے واقف ہے۔ کیا محمد ﷺ نے یکہ و تنہا اپنی اس تباہ کن انقلاب کو برپا نہیں کیا۔ محمد بن عبد الوہاب بھی (نعوذ بالله) محمد ﷺ کی طرح ہمارے پیش نظر انقلاب کو شعلہ در کر سکے گا۔“

اس ملاقات کے پچھے دن بعد میں نے وزیر اور سیکرٹری سے سفر کی اجازت چاہی اور پھر گھر والوں اور دوستوں کا وداع کیا۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے میرے چھوٹے لڑکے نے ملتحانہ لبجھ میں آہما ”بابا جلدی گھر آئیے گا“: اس کے اس جملے نے میری آنکھیں نہ آسود کر دیں اور میں ان اشکوں کو اپنی بیوی سے نہ چھپا سکا۔

ہمارا جہاز بصرہ کی سمت روانہ ہوا۔ بڑے دشوار اور سخت سفر کے بعد رات کے وقت بصرہ پہنچا اور سید حا عبد الرضا تکھان کے گھر پہنچا۔ وہ بیچارا سورا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بہت خوش ہوا اور بڑی گرمبوثی سے میرا استقبال کیا۔ میں نے رات وہاں کاٹی۔ دوسری صبح مجھے عبد الرضا سے معلوم ہوا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کچھ عرصہ پہلے ایران سے بصرہ پہنچا اور ابھی چند دن پہلے اسی نامعلوم مقام کی طرف خدا حافظ کہہ کر گیا ہے۔ عبد الرضا نے یہ بھی بتایا کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب میر سے نام ایک خط بھی دی گیا ہے۔ اس خط میں اس نے اپنا پتا نجد کا لکھا تھا۔ دوسرے دن میں اکیلا عازم نجد ہوا اور بڑے زحمتوں کے بعد منزل مقصود پر پہنچا اور شیخ سے اس کے گھر پر ملا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اس موضوع پر اس سے گفتگو مناسب نہیں سمجھی لیکن جلد ہی مجھے پتا چل گیا کہ اس نے دوسری شادی رچائی ہے اور جنسی روابط میں افراط سے کام لے گا اپنی طاقت کھو بیٹھا ہے۔ میں نے اس بارے میں اسے نصیحتیں کیں اور بتایا کہ ابھی ہم دونوں نے مل کر بہت سے امور انجام دینے ہیں۔ اس منزل پر ہم نے یہ طے کیا کہ میں اپنے آپ کو ”عبداللہ“ کے فرضی نام سے بطور غلام پیش کروں گا اور بتاؤں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے مجھے بردا فروشوں کے روہ سے خریدا ہے چنانچہ شیخ نے لوگوں سے میرا اسی عنوان سے تعارف کرایا اور بتایا کہ بصرہ میں اس کے کام سے ٹھہرا ہوا تھا اب یہاں نجد پہنچا ہوں۔

نجد میں رہنے والے شیخ محمد بن عبد الوہاب کا غلام سمجھتے تھے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہو گا کہ اس مقام پر شیخ کی دعوت کا سامان فراہم کرنے میں ہمیں دو سال کا عرصہ لگا۔ ۱۱۳۲ھ کے اواسط میں محمد بن عبد الوہاب نے جزیرہ العرب میں اپنے نئے دین کے

اعلان کا حتمی ارادہ کیا اور اپنے دوستوں کو اکھٹا کیا جو اس کے ہم خیال تھے اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے تھے۔ ابتداء میں صرف اپنی خاص اصحاب اور مریدوں کے دائرہ میں چند مہم اور غیر واضح الفاظ میں بڑے اختصار کی ساتھ اس دعوت کا آغاز ہوا لیکن کچھ عرصہ کے بعد نجد کے ہر طبقہ کے افراد کو بڑے پیمانے پر دعوت نامے بھیج گئے۔ آہستہ آہستہ ہم نے پیسے زور پر شیخ کے افکار کی حمایت میں ایک بڑا مجمع انہا کیا اور انہیں دشمنوں سے نبرد آزمائونے کی تلقین کی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جزیرہ العرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کے مخالفوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔

جلد ہی رکاؤں اور دشمنوں کا سلسلہ اس منزل تک پہنچا کہ شیخ کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ خاص طور پر نجد میں اس کے خلاف بڑی خطرناک باتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے بڑی قاطعیت کے ساتھ اسے جھے رہنے کی ترغیب دی اور اس کے ارادے کو سوت نہیں ہونے دیا۔ میں ہمیشہ محمد بن عبد الوہاب سے کہتا تھا: ”بعثت کے ابتدائی دنوں میں اللہ کے رسول حضرت محمد ﷺ کی دشمن تمہارے دشمنوں سے بدرجہا زیادہ طاقتور تھے مگر آپ ﷺ ان کی پیدا کردہ دشواریوں اور مصیبتوں کو بڑی تحمل کے ساتھ جھیلتے رہے۔ ان اذیتوں، تہمتوں اور دشام طرازیوں کے سہے بغیر کسی بڑی راہ پر گامزن ہونا اور بلندیوں کو چھونا ناممکن ہے۔ کوئی پیشوں اور کوئی رہبران دشواریوں سے دامن نہیں چھڑاسکا۔

اس طرح ہم نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا اور خطرناک دشمنوں کے مقابل آئے۔ ہمارے کامیاب پروگراموں میں ایک پروگرام شیخ محمد بن عبد الوہاب کے دشمنوں کو پیسے کے ذریعے توڑنا تھا۔ ہمارے یہ تنخواہ دار اب مخالفین کی صفت میں رہ کر ہمارے لیے جاسوی کرتے تھے اور ان کے ارادوں سے ہمیں آگاہ رکھتے تھے۔ ہم ان بظاہر دشمن سپاٹھیوں کے ذریعے مخالفین کی تمام ایکیموں کو نقش برآب کیا کرتے تھے۔ مثلاً ایک بار میں نے ساچندا آدمیوں کے ایک گروہ نے شیخ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ میں نے فوری قدامات کے ذریعے اس قتل کی سازش کونا کام بنایا اور اس گروہ کو اتنا رسوا کیا کہ بات شیخ محمد

بن عبد الوہاب کے حق میں تمام ہوئی اور لوگوں نے دبشت گردوں کا ساتھ چھوڑ دیا۔

آخر کار شیخ محمد بن عبد الوہاب نے مجھے یہ اطمینان دلایا کہ وہ نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے چھنکاتی پروگرام کو رو بہ عمل لانے میں اپنی پوری کوشش کرے گا۔ تاہم اس نے دونکات کے بارے میں خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ان میں سے ایک مکہ پر تصرف حاصل کرنے کے بعد خانہ کعبہ کا انہدام تھا شیخ محمد بن عبد الوہاب کے نزدیک یہ ایک بیہودہ اور خطرناک کام تھا کیونکہ اہل الاسلام اتنے جلدی اس کے دعوے کو تسلیم کرنے والے نہیں تھے اور یہی صورت حجج کے بت پرست قرار دینے کی تھی۔ دوسرا امر جو اس کے بُس سے باہر تھا وہ ایک جدید قرآن کی نگارش تھی۔ وہ قرآن کے مقابل نہیں آنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مکہ اور اتنبول کے حکام سے خائف تھا اور کہتا تھا کہ میں نے کعبہ کو ڈھادیا اور نے قرآن کی نگارش کی تو اس بات کا خطرہ ہے کہ عثمانی حکومت ایک بڑی فوج میری سرکوبی کے لیے عربستان بھیجے اور ہم اس پر پورے نہ اتر سکیں۔ میں نے اس کے عذر کو معقول سمجھا اور اندازہ لگایا کہ اس دور کی سیاسی اور مذہبی فضائی اس بات کی متقاضی نہیں ہے۔

محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کے برسوں کے بعد جب چھنکاتی پروگرام کا میاہی کی پوری منزلیں طے کر چکا تو نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے ارادہ کیا کہ اب سیاسی اعتبار سے بھی جزیرہ العرب میں کوئی کام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے عمال میں سے محمد بن سعود (۱) کو محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ اشتراک عمل پر مامور کیا اور اس کام کے لیے محمد بن عبد الوہاب کے پاس خفیہ طور پر ایک نمائندہ بھیجا تا کہ اس کے سامنے حکومت برطانیہ کے مقاصد کی توضیح کرے اور ”محمدین“ (یعنی محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود) کے اشتراک عمل کی ضرورت پر زور دے اور تاکید کرے کہ دینی امور کے فیصلے کلی طور پر محمد بن عبد الوہاب کے ہاتھ میں ہونگے اور سیاسی امور کی نگرانی محمد بن سعود کی ذمہ داری ہوگی۔

(۱) سعودی خاندان کا صورث اٹلی جس نے ۱۷۲۰ء میں وباہی مذہب اختیار کیا اور حکومت برطانیہ کی طرف سے خجد کا حکمران بننا اور ۱۷۲۷ء سے ہمکنار ہوا۔

نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کا ہدف مسلمانوں کے جسم و جان دونوں پر اتنا اثر و نفوذ قائم کرنا تھا اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیاسی حکومتوں سے دینی حکومتیں زیادہ دریا اور طاقتور رہی ہیں۔

اس طرح دینی اور سیاسی شخصیتوں کے اتحاد عمل کے نتیجے میں انگریزوں کا بھلا ہو رہا تھا اور ہر آنے والا دن اس بھلائی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ان دونوں رہبروں نے خجد کے قریب ”در عیہ شہر“، ناپنا پایہ تخت بنایا۔ نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت خفیہ طور پر دل کھول کر ان مالی اعانت کر رہی تھی مذکورہ کی پلانگ کے تحت حکومت کو بظاہر کچھ غلام خریدنے تھے جو دراصل نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت بھی کے کچھ آدمی تھے جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل تھا اور جو صحرائی جنگوں کے فنون سے بھی واقف تھے۔ ان تمام باتوں کا انتظام بھی ہماری حکومت نے کیا تھا۔ میں نے ان افراد کے اشتراک عمل سے جو تعداد میں گیارہ تھے اس اسلامی حکومت کی دینی اور سیاسی را ہیں معین کیں۔ دونوں ”(یعنی محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود)“ اپنے فرائض سے بخوبی واقف تھے اور ان معین کی جانے والی راہوں پر نے تلے قدموں سے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کبھی کبھار ان دونوں کے درمیان جزوی کشمکش ہو جایا کرتی تھی اور وہیں اس کا فیصلہ بھی ہو جایا کرتا تھا اور نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کو اس میں دخل اندازی کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔

ہم نے خجد کے اطراف کی لڑکیوں سے شادیاں کیں۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ مسلمان عورتوں میں محبت، خلوص اور شوہرداری کی صفت واقعی حرمت انگلیز اور قابل تعریف ہے۔ ہم ان رشتہوں کے ذریعے اہل خجد کے ساتھ دوستی، ہم دلی اور تعلقات کو اور زیادہ مضبوط بنائے کے۔ اس وقت ہم ان کے ساتھ دوستی کی معراج پر ہیں۔ مرکزی حکومت جزیرہ العرب میں اپنا اثر و نفوذ قائم کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اگر کوئی ناگوار حادثہ رونما نہ ہوا تو بہت جلد اسلامی سر زمینوں پر بکھیرے ہوئے یہ شج تناور درختوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور ہمیں ان سے اپنے مظلوب پھل حاصل ہوں گے۔

یہاں پر بھرے کے اعتراض اختمام پذیر ہوئے

برطانوی حکومت کی پروپریٹی میں خجدی فتنہ آہستہ بڑھتا رہا تھا کہ لوگ اسلامی تعلیمات اور عقائد میں اسی طرح رخنہ اندازی کرنے لگے، جس طرح فرنگیوں نے چاہا تھا۔ بہت سے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے عقائد و نظریات کو بھلا کر بد عقیدگی اور گمراہی کی راہ چل نکلے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہیں حضرت شیخ مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات شریف سمجھنیں آتے، انہیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی کتاب ”اخبار الاحیاء“ میں پچ عقائد کی جھلک نظر نہیں آتی اور حضرت امداد اللہ مہاجر کی کتاب ”فیصلہ فت مسئلہ“ سے جی چہا تے ہیں۔ افسوس! قرآن کریم نے ہمیں ابلیس کی دشمنی سے آگاہ کیا لیکن ہم نے تعلیمات قرآن کو بھلا دیا۔ چنانچہ لوگ گمراہی کی دلدل میں سچنے پڑتے چلے گئے، وہ حقیقت اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے تبلیغ، اصلاح اور تربیت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے تبلیغ کرنے کے لیے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو انہیں بھی اسی ”فرنگی جال“ میں پھنسا کر بے بس کر دیا گیا۔ جنہوں نے اسلام کی روشنی دنیا بھر میں پھیلانے والے بزرگوں سے رہنمائی لینا تھی، وہ ان کے خلاف ہو گئے، جنہوں نے بزرگان دین سے روحانی فوائد حاصل کرنا تھے، وہ اس فائدے ہی کو شرک و بدعت تصور کرنے لگے۔

لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ہر زمانے میں حق کی دعوت دینے والے مقرر فرمائے ہیں، لہذا دور حاضر میں اپلینڈ، و جماعت کی بے حصی اور جمود کو ختم کرنے اور ”بھرے“ کے مشن کونسلٹنٹ انعام تک پہنچانے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی، شیخ احمد سرہندیؒ کی تعلیمات کے زیر سایہ اور شیخ المشائخ سید میر طیب علی شاہ بخاری سجادہ نشین حضرت کرمائیں والے (اوکاڑہ) کی زیر پرستی ”نقشبندی مجددی قائلے“، ہر علاقے ہر شہر اور گلی سے نکلیں گے اور بھلکے ہوئے مسلمانوں کو ”نجد کی اندر می کھائی“، میں گرنے سے بچا کر نبی اکرم ﷺ کے حضور پیش کریں گے تاکہ اللہ کریم جل شانہ ان پر رحم فرمائے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ عزوجل)

نقوش۔ محبت کی تلاش

ایک ایسی تحریر جسے سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ
دل کی آنکھوں سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔

(صلاح الدین محمود)

ترکوں نے ججاز پر اپنی دور حکومت کے دوران رسول پاک ﷺ کی ولادت
با سعادت سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک کے ہر لمحے سے وابستہ ہر جسمانی،
روحانی، تاریخی اور جمالیاتی کیفیت کو آئندہ نسلوں کے واسطے محفوظ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ یہ
کام غیر شعوری سطح پر تو عہد نبوی ﷺ سے جاری تھا، مگر اب کوئی ایک ہزار برس گزر چکے
تھے اور اب یہ ضروری تھا کہ ایک شعوری اور حتمی سطح پر یہ عمل ہو۔ اس کام کے واسطے جنون کی
حد تک رسول پاک ﷺ سے محبت اور انسانی حواس کی حدود تک نفاست اور بینی سچائی کی
ضرورت تھی۔ یہ رحمت ترک لحن میں موجود تھی اس واسطے وہ اس کام میں تقریباً مکمل
کامیاب ہوئے تھے۔ ترکوں کا انسانیت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے۔

ان کو علم تھا کہ جس خطہ زمین پر آپ کا نزول ہوا اور آپ کا پہلا قدم مبارک پڑا
کہ جس ہوا کا پہلا سانس آپ کے اندر جذب ہوا اور جس نے آپ کی آواز کا گداز پہلی بار
برداشت کیا کہ جس ہوا کی سہار سے پہلے پرندے کی پکار آپ تک آئی اور پھر جس خلا کے خم
سے چاند اور سورج نے پہلی بار ان کو دیکھا کہ جہاں جہاں آپ
کی بینائی میں نئے ستاروں کا وقوع ہوا اور جس جس طور آپ کی وسیع ہوتی آنکھوں نے ان
کی دو ہری حرکت کو واحد کر کے اپنی لہو میں سمویا کر یہ قد آور لمحے، گوشے، چھپے اور ہوا اور
بنیائی، صد اور شنوائی کے نقش اول محض رسول ﷺ کے نہیں، بلکہ آتی دنیا تک ہر نئے
کلمہ گو کے لہو کا اول، اولی، آبائی اور اصلی نشان ہیں۔ اس بات کا ان کو مکمل علم تھا، سوانتمام
چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے پہنچ پا کر اس بڑے ہوتے ہوئے بچے میں بنو سعد

کی خصلت اور محبت سے آغاز کرنے کا ارادہ کیا مگر سب سے پہلے انہوں نے مدینہ منورہ میں اس میدان کا تعین کیا کہ جہاں مرنے سے پہلے ایک خوب رہا اور کم عمر نوجوان نے اپنے گھر سے دور، بخار کی گرمی اور ہے چینی و مٹانے کے واسطے، ایک شام، چند لمحات کے واسطے گشت کیا تھا اور پھر اپنی کم سن، خوبصورت اور بنس مکھ بیوی کو بیوہ اور ابھی ماں کے بدن، ہی میں قائم بچ کو تیم اور بے سہارا چھوڑ کر اپنی تمنا میں اپنے دل، ہی میں لیے مر گیا تھا۔

پھر انہوں نے ایک پہاڑ کی کوکھ میں اس چھوٹے سے گھر کا تعین بھی کیا کہ جس کی پہلی منزل پر شمال کی جانب قائم ایک چھوٹے سے بالکل چوکور کمرے میں کہ جہاں چہار آینوں کو اوٹ میں چہار سمتیں متی تھیں، ایک بچہ کہ جس کو کائنات کی امان تھی، ظہور میں آیا تھا۔ پھر اس بچے کو ایک بزرگ انسان نے اپنے محنت اور سورج کملائے ہاتھوں سے اپنی ایک چادر میں لپیٹا تھا اور وہ پگڈنڈی طے کی تھی کہ جو اللہ کے گھر تک جاتی تھی۔ وہاں پہنچ کر اس ضعیف انسان نے چادر میں لپیٹے ہوئے نوزادیہ بچے کو ہاتھوں میں رکھ کر کائنات کی جانب بلند کیا تھا اور دعا کی تھی کہ اے خالق کائنات اس بچے پر حرم فرماء، اس واسطے کے یہ بے آسر اور تیم ہے۔ ترکوں نے اس شمالی کمرے، اس آبائی پگڈنڈی اور اس دعا کے مقام کا بھی نہایت ہی کاوش سے تعین کر کے خاموش ریگستان کی سُنگم پر اس جگہ کو بھی دریافت کر کے محفوظ کیا تھا کہ جہاں اس دعا کے کوئی چھبرس بعد اپنے جواں مرگ خاوند کی قبر سے واپسی پر اپنے چھبرس کے حیران بچے کی انگلی پکڑے پکڑے جب اس کم سن خاتون نے ایک رات کے واسطے پڑا تو کیا تھا تو وفات پائی تھی۔

اگلے روز حیران آنکھوں والے اس چھبرس کے بچے نے اپنی ماں کا چہرہ کہ جس سے اب آہستہ آہستہ وہ ماں وہ ہو رہا تھا، آخری بار دیکھا تھا اور پھر اپنی ماں کو اپنے بچے پکھے ہاتھوں سے انجان خاک میں اتار کر قافلے کے ساتھ اپنی مقدار کی جانب چل پڑا تھا۔ ترکوں نے اپنی مثالی درستگی، سادگی، صفائی اور خوش اسلوبی سے ایک کتبہ یہاں بھی چھوڑ دیا تھا کہ

آنے والوں کو آگاہی ہو کہ معصوم دلوں کی اکیلی ہی ہے کہ جوان کو وحدت کا ہمراز بناتی ہے۔ ان کا اگلا قدم اس راستے کا تعین کرنا تھا جس پر اس واقعے کے تین برس بعد یہ بچہ ایک ضعیف میت کے ساتھ ساتھ چار پائی کا پایا پکڑ کر سب کے سامنے بلکہ بلک کروتا ہوا چلا تھا۔ اس کو شاید احساس تھا کہ آج کے بعد اس کی اکیل کا نتائی وحدت کی اکیل ہے اور آج کے بعد شاید وہ کبھی کھل کر رونہ سکے گا۔ غرض یہ کہ ترکوں نے رسول پاک ﷺ کی ولادت سے لے کر آپ کی وصال مبارک تک کے واقعات کو آنے والی نسلوں کے تاریخی، جمالياتی اور ايماني شعور کے واسطے درستگی اور سادگی کی ساتھ محفوظ کرنے کا جو بیڑا اٹھایا تھا، اس میں وہ ایک بڑی حد تک کامیاب ہوئے۔ آپ کے بچپن سے جوانی تک کی سمتوں کا تعین کرنے کے بعد انہوں نے غار حرا کی چوٹی سے آسمانوں کو دیکھا اور پھر اس اونچے پہاڑ کی نشیبی وادی میں قائم شہر کے ایک گھر کے اس چھوٹے سے کمرے کا تعین کیا کہ جہاں حیرت پرے سے اپنے نام کی پکار سننے کے بعد واپس آ کر رسول پاک ﷺ نے آرام فرمایا تھا اور جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ پر اپنی مکمل اعتماد سے آپ کو اس حد تک حوصلہ دیا تھا کہ جب فتح مکہ کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کہاں قیام کریں گے، تو آپ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر کے ساتھ آپ کا خیمه نصب کیا جائے۔ بعض لوگوں کے استفسار پر کہ آخر ایک قبر کے کنارے ایک قبرستان میں کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا: ”جب میں غریب تھا، تو ماس نے مجھ کو مالا مال کیا۔ جب انہوں نے مجھ کو جھوٹا نہہ رکھا، تو صرف اس بھی نے مجھ پر اعتماد کیا اور جب سارا جہاں میرے خلاف تھا، تو صرف اس اکیلی ہی کی وفا میرے ساتھ تھی۔“

ترکوں کے ماہرین نے پہلے اس گھر کا پھر اس گھر میں اس کمرے کا تعین کیا کہ جہاں مکمل اعتماد کا یہ بنیادی لمحہ گزر اتھا۔ یہاں یہ بیان کرنا شاید دلچسپی سے خالی نہ ہو کہ اس کمرے اور اس کے بارے میں کہ جہاں آپ کا ظہور ہوا تھا، عثمانی حکومت کی جانب سے جو

جاری احکامات تھے، وہ کیا تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھروالے کمرے کے بارے میں جاری حکم تھا کہ ہر بار رمضان کا چاند نیکھتے ہی اس میں سفیدی کی جائے اور پھر فجر کی اذان تک خواتین بآواز بلند قرآن کی تلاوت کریں، جبکہ حضرت عبدالمطلب کے گھر میں واقع اس شماں کمرے کے بارے میں احکامات یہ تھے کہ پہلی ربع الاول کو کمرے کے اندر سفید رنگ کیا جائے، رنگ ساز حافظ قرآن ہوں اور پھر ربيع الاول کی اس رات وجب آپ کاظمین بوا، معصوم بچے اس کمرے کے اندر آئیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اگلی صبح پرندے آزاد کرنے کا حکم اور روانج تھا۔

سوجہاں انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان اور مقبرے کا تعین کیا، وہاں انہوں نے بنوار قم کی بینخک کو محفوظ، ورقہ بن نوفل کی دہلیز کو پختہ اور حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنگن کی نشاندہی بھی کروائی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کے اور مدینے میں قائم ان ازلی قبرستانوں کو کہ جن میں خانوادہ رسول کے بیشتر افراد، اصحاب کرام اور ان کے خاندان اور چیدہ ترین بزرگان دین قیامت کے منتظر ہوتے تھے، صاف سہرا اور پاک کروایا اور پھر نہایت ہی سلیقے سے قبروں کی نشان دہی کر کے مکمل نقشے مرتب کروائے۔

ان تمام کارروائیوں میں ترکوں کا طریقہ کار بہت موثر اور یکتا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ترک حجاز پہنچے تو مسجد بلال جو کہ خانہ کعبہ کے سامنے ایک پیاڑ پر واقع ہے، صدیوں کی غفلت کی وجہ سے تقریباً مٹی اور پتھر کا ڈھر ہو چکی تھی۔ اس چھوٹی سی مسجد کو اس کے اصل خطوط پر دوبارہ تعمیر کرنے کے واسطے جو طریقہ اختیار کیا گیا، وہ یہ تھا۔ پہلے تمام مٹی اور چونے کو پیس کونہایت باریک تھلیوں سے چھان کر الگ الگ تیار کر لیا گیا۔ مجھے ہوئے چونے کا کیمیائی تحریک کر کے اس کے اجزاء معلوم کیے گئے۔ پھر ان اجزاء کے اصلی اور پرانے مأخذ دریافت کرنے کے بعد ایک ہی مأخذ کی نئے اور پرانے چونے کو ملا کر اور مزید طاقتور بنانا کر چنانی کے واسطے استعمال کیا گیا۔ پتھر بھی اپنی ترش، کیفیت اور ساخت کو مد نظر

رکھتے ہوئے تقریباً اسی طرح اور اسی جگہ نصب ہوئے کہ جہاں پہلی مرتبہ عبد بنوی ﷺ کے فوراً بعد نصب ہوئے تھے۔

اس طرح وہی مٹنی، وہی گارا اور وہی چوتا اور وہی پھر بالکل اسی طرح استعمال ہوا جیسا کہ صدیوں پہلے مسجد کی تعمیر اول میں استعمال ہوا تھا۔ مسجد نئی بھی ہو گئی اور اپنے اصلی اور اول خطوط پر قائم بھی رہی۔ یہ ترکوں کے طریقہ کاری محض ایک قدرے معمولی مثال ہے۔

جب ۵۳ برس کے میں بیت گئے اور زمین کی گردش اس شہر وایک بار پھر وہیں لے آئی جہاں وہ ۵۳ سال گردشوں پہلے تھا۔ تو نے ستاروں کا دفعہ ہوا تھا اور رسول پاک ﷺ نے مدینے کا رخ کیا تھا۔ سو ترک بھی اس آبائی راستے پر چل نکلے تھے۔ غار ثور و انہوں نے کچھ نہ کہا اور یہی مناسب سمجھا کہ نہ تو اس کے جانے صاف کریں اور نہ یہ کبوتروں کے صدیوں پرانے گھونسلوں کے جہاز جھنکاڑ کو کامیں یا بنا میں۔ غار ثور کو انہوں نے مکڑیوں اور کبوتروں کے سپرد ہی رہنے دیا کہ اب جائز طور پر وہی اس گوشے کے مالک اور حقدار تھے۔ غار حرا تک کی نہایت ہی مشکل چڑھائی کو بھی انہوں نے آسان بنانے کی کوئی کوشش نہ کی تاکہ چڑھنے والوں کو چوٹی تک پہنچنے کے جتن کا احساس برابر ہوتا رہے۔ باس اتنا ضرور کیا کہ وہ تھائی چڑھائی پر ایک نہایت سادہ ہی نامہ بنادی تاکہ بارش کا پانی کبھی کبھی جمع ہو سکے اور بچے، بوز ہے اور عورتیں اگر چاہیں، تو چڑھائی کے دوران پیاس بجا سکیں۔

اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر مدینے کے اطراف میں قائم بونجارتی کچی بستی تک بھرت کے راستے کا حصہ تعین کر کی نقشہ مرتب کیا۔ ترک جب جہاز پہنچ تو بونجارت ترہ ہو چکے تھے۔ پھر بھی ترکوں نے پہنچے لوگوں کو تلاش کیا اور سینہ پر سینہ محفوظ، ان کی اوگ گیتوں تو پہلی بار قلم بند کر کے باقاعدہ محفوظ کیا۔ مسجد قبا کو نہایت ہی بحر سے بحال کرنے کے بعد وہ کچھ دیر اس کنوئیں کی منڈیر پر بھی ستانے کو بینچے کہ جہاں بھرت کے بعد پہلی نماز ادا کر کے رسول پاک ﷺ نے قیام فرمایا

تحا اور جس کو دیکھ کر آپ نے اونچے ہوتے پانی میں اپنے چہرے کا شفاف عکس دیکھ کر، پہلے ایک لمحہ توقف، اور پھر سرت کا اظہار فرمایا تھا۔

اس کنوئیں سے اب راستہ مدینے کو جاتا تھا۔ مدینے کے اس میدان تک جاتا تھا کہ جہاں آپ کی آمد سے کوئی ۵۳ برس پہلے، ایک شام، مرنے سے پہلے ایک خوبرو اور کم عمر نوجوان نے اپنے گھر سے دور اپنے بخار کی گرمی اور بی چینی کو مٹانے کے لیے چند لمحات کی واسطی گشت کیا تھا اور پھر اپنی کم سن، خوبصورت اور نہس مکھ بیوی اور ابھی ماں کے بدن ہے میں قائم بچے کو متینم اور بے شہار اچھوڑ کے اپنی تمباکیں اپنے دل ہے میں لیے فوت ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر وہی میدان تھا۔ مسجد نبوی کو اب یہاں تعمیر ہونا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر بھی ایمان، ہنرمندی، پاکیزگی اور نفاست کی ایک عجیب انوکھی داستان ہے۔ پہلے پہل برسوں تک تو ترکوں کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسجد نبوی کو تعمیر کریں۔ ان کے نزدیک یہ ایک کائناتی اور انسانی حدود سے ماوراءالاقوٰں کے بس کا عمل تھا اور وہ محض انسان تھے۔ مگر جب انسان پچی محبت کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے باہر قدم دھرنے کی ہمت بھی پا جاتا ہے۔ سو اپنی محبت کی سچائی کے سہاری انہوں نے یہ کام شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ترکوں نے اپنی وسیع الطہت اور پھر پورے عالم اسلام میں اپنے اس ارادے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ اس حتمی کام کے واسطے ان کو عمارت سازی اور اس سے متعلق علوم اور فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ہندوستان، افغانستان، چین، وسطی ایشیا، ایران، عراق، شام، مصر، یونان، شمالی اور وسطی افریقہ کے اسلامی خطوط اور نہ جانے جانے عالم اسلام کے کس کس کو نے اور کس کس چپے سے نقشہ نویں، معمار، سُنگ تراش، بنیادیں زمین کی زندہ رگوں تک اتا رہے کے ماہر، چھتوں اور سائبانوں کو ہوا میں متعلق رکھنے کے ہنرمند، خطاط، پچکار، شیشہ گر اور شیشہ ساز، کیمیاگر، رنگ ساز اور رنگ شناس، ماہرین فلکیات، ہواؤں کے رخ عمارتوں کی دھار کو بٹھانے کے ہنرمند اور نہ جانے کن کن عیاں اور کیسے کیسے پوشیدہ

علوم کے ماہرین، اساتذہ، پیشہ و را اور ہنرمندوں نے دنیاۓ اسلام کے گوشے گوشے میں اپنے اہل و عیال کو سمیٹا اور اس ازلی بلاوے پر قحطی نیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کہیں بے حد دور، ایک چھیل ریگستان میں جنت کی کیاری کے کنارے، ان کے رسول کی قیام گاہ پر تعمیر ہونے تھی اور وہ اور ان کے ہنر اب ہر طرح اس کام کے واسطے وقف تھے۔

ترکوں کو اس والہانہ کیفیت کی ایک حد تک امید تھی، مگر پھر بھی کہا جاتا ہی کہ اس اجتماعی بے اختیاری اور مکمل اطاعت پر ان کو تعجب ضرور ہوا تھا۔ بہر کیف ان کی تیاریاں بھی مکمل تھیں۔ عثمانی حکومت کی تقریباً ہرشاخ، اعلان سے پہلے ہی حرکت میں آچکی تھی اور حکومت کے اہل کار اپنے حدود میں اور سفیر دوسرے اسلامی ممالک میں اس انداز اور اس ارادے کے تمام لوگوں کی اعانت کے واسطے تیار تھے۔ ان الہکاروں اور سفیروں کا یہ احکامات تھے کہ وہ ان تمام ماہرین اور ان کے ہمراہ ان کے اہل و عیال کو، اگر وہ چاہیں، تو قحطی نیہ تک کے راستے میں ہر طرح کی سہولت فراہم کریں۔ ادھر سلطان وقت کے حکم سے قحطی نیہ سے چند فرنگ کے باہر میدانوں میں ایک خود کفیل اور کشادہ بستی تیار ہو چکی تھی۔ سو پھر جب ان یکتائے روزگار لوگوں کے قافلے پہنچنے شروع ہوئے، تو ان کو ان کے روزگار کے اعتبار سے اس نئی بستی کے الگ الگ محلوں میں بایا جانے لگا اور حکومت مکمل طور پر ان کی کفیل ہوئی۔

اس عمل میں کوئی پندرہ برس گزر گئے، مگر اب یہ یقین سے کہا جا سکتا تھا کہ اس بستی میں اپنے وقوں کے عظیم ترین فنا رجوع ہو چکے ہیں۔ اب خود سلطان وقت اس نئی بستی میں گیا اور اس نے خاندانی سربراہوں کا اجلاس طلب کر کے منصوبے کا اگلا حصہ ان کے سامنے رکھا۔ منصوبے کا اگلا حصہ اس طرح تھا۔ ہر ہنرمند اپنے سب سے ہونہار بچے یا بچوں (اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہونہار ترین شاگرد) کا انتخاب کرے اور اس بچے کے جوان ہونے یا پختہ عمر کو پہنچنے تک اس کی بدن اور لجن میں اپنا مکمل فن منتقل کر دے۔ ادھر حکومت کا ذمہ تھا

کہ وہ اس دوران اس انداز کے اتالیق مقرر کرے کہ وہ ہر بچے کو پہلے قرآن کریم پڑھائیں اور پھر قرآن حفظ کروائیں۔ ساتھ ساتھ سواری بھی سکھے۔ اس تمام تعلیم تربیت اور تیاری کے واسطے پچیس برس کا عرصہ مقرر کیا گیا۔ اس منصوبے پر ہر ایک نے لبیک کہا اور صبر، محنت اور حیرت کا یہ بالکل انوکھا عمل شروع ہوا۔

چنانچہ پچیس برس بیت گئے اور ان انوکھے ہنرمندوں کی ایک نئی اور خالص نسل نشوونما پر کرتیار ہو گئی۔ یہ تمیں سے چالیس برس عمر کے مخصوص اور نیک اطوار نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تھی کہ جو محض اپنی اپنی آبائی اور خاندانی فنون، ہی میں کیتا اور عنقا نہیں تھے، بلکہ اس جماعت کو ہر فرد حافظ قرآن اور فعال مسلمان ہونے کے علاوہ ایک صحبتمند نوجوان اور اچھا شہوار بھی تھا۔ پھر ان کے لمحہ اول سے ان کو علم تھا کہ یہ وہ چیز ہے لوگ ہیں کہ جن کو ایک روز کہیں بے حد دور، ایک چیل ریگستان میں، جنت کی کیاری کے کنارے اپنے رسول کی قیام گاہ کے گرد ایک ایسی کائناتی نماارت تعمیر کرنی ہے کہ جو آسمان کی جانب اس زمین کا واحد نشان ہو۔

ترکوں کے اعلان اول سے لے کر اب تک کوئی تمیں برس سے زیادہ بیت چکے تھے، اور مسجد نبوی کے معمار، جن کی تعداد کوئی پانچ سو کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے، تیار تھے۔ ایک طرف تو ہنرمندوں کی یہ جماعت تیار ہو رہی تھی اور دوسری طرف ترک حکومت کے اہل کار عمارت کے واسطے ساز و سامان اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ حکومت کے شعبہ کان کنی کے ماہرین نے خالص اور عمدہ رُگ دریشے کے پھر کی بالکل نئی کانیں دریافت کیں کہ جن سے صرف ایک بار پھر حاصل کر کے ان کو ہمیشہ کے واسطے بند کر دیا گیا۔ ان کانوں کی جائے وقوع کو اس حد تک صیغہ راز میں رکھا گیا کہ آج تک کسی کو علم نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں استعمال ہونے والے پھر کہاں سے آئے تھے۔ بالکل نئے اور ان چھوئے جنگل دریافت کیے گئے اور ان کو کاٹ کر ان کی لکڑی کو بیس برس تک ججاز کی آب و ہوا میں آسمان تلے موسایا

گیا۔ رنگ حاصل کیے اور شیشہ گروں نے شیشہ بنانے کے واسطے جاز ہی کی ریت استعمال کی۔ پچھے کاری کے قلم ایران سے بن کر آئے، جب کہ خطامی کے واسطے نیزے دریائے جمنا اور دریائے نیل کے پانیوں کے کنارے اگائے گئے۔ غرض یہ کہ جب تک ان ہنرمندوں کی جماعت تیار ہوئی، انہی کے بزرگوں کی خاص طور پر تیار کردہ ٹولیوں نے عمارتی سامان بھی فراہم کر لیا۔ یہ سارا عمارتی سامان بمعہ ہنرمندوں کی جماعت کے، نہایت ہی احتیاط سے خشکی، پھر سمندر اور پھر خشکی کے راستے جاز کی سر زمین تک پہنچا دیا گیا کہ جہاں مدینے سے چار فرسنگ دور ایک نئی بستی اس تمام سامان کو رکھنے اور ہنرمندوں کی تعمیر کے دوران رہنے سہنے کے واسطے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر تعمیر مدینے میں ہوئی تھی، تو پھر ساز و سامان مدینے ہے رکھا جاتا۔ آخر یہ چار فرسنگ (بارہ میل) دور کیوں؟ اس کی وجہ ترک یہ بتاتے ہیں کہ آخر ایک بڑی عمارت تیار ہونی تھی کہ جس کے واسطے مختلف جامات کے ہزاروں پتھر کاٹی جانے تھے، بڑے بڑے مچان ٹھوک ٹھاک کر تیار ہونے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ضروری عمارتی عمل ہونے تھے کہ جن میں شور کا بی حد امکان تھا، جبکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ عمارت کی تعمیر کے دوران مدینے میں ذرہ برابر بھی کوئی شور نہ ہو ور جس فضائی ہمارے رسول کی آنکھیں دیکھیں اور آواز سنی ہوئی تھی، وہ اپنی حیاء، سکون اور وقار قائم رکھے۔

سو ہر ایسا کام کہ جس میں ذرا سا بھی شور کا امکان تھا، مدینے سے چار فرسنگ کے فاصلے پر ہوا اور پھر ہر چیز کو ضرورت کے مطابق مدینے لے آیا گیا۔ ایک ایک پتھر پہلے وہیں کاٹا گیا اور پھر مدینے لے لا کر نصب کیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ چنانی کے دوران کسی پتھر کی کٹائی ذرا زیادہ ثابت ہوئی یا کوئی مچان یا جنگلا چھوٹا یا بڑا پڑا، تو اس کو عجلت میں ٹھوک بجا کرو ہیں رسول پاک کے سر ہانے ٹھیک نہ کیا گیا، بلکہ چار فرسنگ دور کی بستی لے جا کر اور درست کر کے دوبارہ مدینے لایا گیا۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس دور میں ذرائع مواصلات

کیا تھے۔ بھاری بوجھ نہایت ستر فتاری اور صبر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا اور انسانی نقل و حمل کے واسطے سب سے تیز رفتاری اور پھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جاتا تھا اور انسانی نقل و حمل کے واسطے سب سے تیز رفتار سواری گھوڑے کے علاوہ کوئی اور نہ تھی۔ جبکہ سارا اعمارتی سامان اپنی خام شکل میں مدینے کے مضافات والی بستی میں پہنچ گیا اور پھر پانچ سو کیلگ بھگ ہنرمندوں کی جماعت نے بھی اسی بستی میں آن کر سکونت پالی، تو سب کچھ اب اس جماعت کے پرداز دیا گیا۔ اپنے فنون کے استعمال اور اپنی تخلیقی عمل میں یہ فنکار و ہنرمند بالکل آزاد تھے۔ صرف دو احکامات ان کو دیئے گئے۔ اول یہ کہ تعمیر کے لمحہ اول سے لے کر لمحہ تکمیل تک اس جماعت کو ہر ہنرمند اپنے کام کے دوران باوضور ہے اور دوم یہ کہ اس دوران وہ ہر لمحہ تلاوت قرآن جاری رکھے۔ سو باوضو حافظ قرآن ہنرمندوں کی یہ جماعت پورے پندرہ برس تک مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف رہی اور پھر ایک صحیح آئی کہ مسجد نبوی کے خلائی نشان کی چوٹی سے فجر کی اذان نے، زمین سے نہایت ہی بھروسے اور ایمان سے اگی اس عمارت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب خلا محفوظ بھی تھا اور آزاد بھی۔

یہ عمارت کیسی ہے، کیا ہی، کہاں ہے اور کہاں لے جاتی ہے؟ اس کی بارے میں تو الگ کتاب لکھوں گا۔ یہاں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ عمارت اس جہان میں ہوتے ہوئے بھی اس جہان میں نہیں ہے۔ اپنے آپ میں قائم رہ کر اس عمارت کو تو دیکھو تو یہ کہیں اور ہے۔ اپنے آپ سے باہر قدم دھر کے اس کو دیکھو تو یہ کہیں اور، اور ہم کچھ اور ہیں۔ پھر، خلا، ہوا، آواز، لحن، نیت، ایمان اور نور نے مل کر صبر کی ایک نئی بنت کی ہے۔ متوازی اوقات اگر رنگ برنگ کے دھاگے ہیں تو ان کی بنت میں بے رنگ کا دھاگا اس عمارت کا نور ہے جو کہ اس بنت کو محض معنی ہی نہیں دیتا، بلکہ اوقات کا ایک دوسرے سے ایک جائز اور مخفی رابطہ بن کر اوقات کو ایک مرکز بھی فراہم کرتا ہے اور اوقات کے اس مرکز

سے ہم کو اپنے رسول ﷺ کی آواز یوں آتی ہے کہ جیسے خلا محفوظ بھی ہو اور آزاد بھی، کہ جیسے آواز پرندہ بھی ہو اور لہو بھی کہ اندھیرے میدانوں میں کبھی نور کا شجر اگے تو کبھی نور کی وادیوں میں اندھیرا خود ایک شجر ہو کہ جیسے نور محض نور ہی نہ ہو، بلکہ نور کا منع بھی ہو۔ سوجب ریاض الجنة میں اس خلا کے خم پر اپنے رسول ﷺ کے سرہانے بیٹھو، تو کشف ہوتا ہے کہ آخر محبت کے کیا معنی ہیں اور نیت کی کیا حدود۔ اور پھر وہ بے نام ہنرمند یاد آتے ہیں کہ جن کو اپنے ہنر سے اس واسطے محبت تھی کہ وہ ان کے رسول ﷺ کی قیام گاہ کی حیاء، سکون اور حیرت کو قائم رکھتے ہوئے اس عمارت کو اس خلا کے خم پر تعمیر کیا تھا کہ آج اس عمارت میں محض ان کا ہنر ہی نہیں، بلکہ ان کے ہنر کا غیب بھی محفوظ ہے، اور پھر ترکوں کے واسطے دعا ہمارے پور پور سے بلند ہوتی ہے۔

پھر کئی صد یاں بیت گئیں۔

اندر و فی سازشوں اور بیرونی نیتوں کے دباو کے تحت پرانی حکومتیں کمزور اور نئی حکومتیں اور طاقتیں ظہور میں آتی رہیں۔ پھر جب بیسویں صدی کا آغاز ہوا، تو پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اس جنگ میں عثمانی حکومت نے انگریز، فرانسیسی اور اطالوی طاقتوں کے خلاف جرمن قوم کا ساتھ دیا۔ ۱۹۱۸ء میں ترک جرمن محاڑ کو شکست ہوئی اور فتح پانے والوں نے جہاں جرمی کے نکڑے کر کی شکست کے ساتھ ساتھ اس کے اجتماعی وقار کو خاک میں ملایا، وہاں ترکمانی ناموس بھی خون کے ساتھ ساتھ بہہ کر خاک میں شامل ہو گیا اور عثمانی حکومت کی کشادہ عدو دبھی فارج ٹولے نے عثمانی سلطنت کے خطوں پر حکومت کرنے کے دو طریقے رائج کیے۔ پہلا طریقہ براہ راست حکومت تھا اور جہاں براہ راست حکومت ممکن نہ تھی۔ وہاں ایک خاص منصوبے کے تحت ایسے قبیلوں، سیاسی جماعتوں یا افراد کو سہارا یا طاقت دینا طے پایا تھا کہ جن کی وساطت سے محض دائرہ اثر ہی کو قائم نہ رکھا جاسکے، بلکہ ہو سکے، تو ملت اسلام میں مزید انتشار اور کشیدگی بھی پھیلانی جاسکے۔

ترکوں کی جنگ عظیم میں شکست کے بعد جزیرہ نما عرب میں جن طاقتوں نے علاقائی افراطی کا فائدہ انھا کر کھلم کھلا ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیئے تھے، ان میں صوبہ نجد کے ایک پیشہ و ربانیوں کا سعودی قبیلہ بھی شامل تھا۔ جنگ عظیم کے دوران یہ لوگ ایک خفیہ معاهدے کے تحت انگریزوں سے مل چکے تھے۔ اس معاهدے کی رو سے انگریز یہ چاہتا تھا کہ جنگ عظیم کے دوران یہ قبیلہ اپنی بغاوتوں، حملوں، جنگوں اور چھاپوں وغیرہ سے ترکوں کا اتنا جنگ کرے اور برس پیکار رکھے کہ مشرق وسطیٰ میں انگریز حملہ آوروں کی طرف پوری طرح دھیان نہ دے سکیں۔ اس کے عوض انگریز نے عہد کیا تھا کہ اگر وہ جنگ جیت گیا تو وہ پہلے نجد اور پھر جزیرہ نما عرب پر اس نجدی قبیلے کا تسلط قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا۔ مگر یہ انگریز کا عہد تھا جو کہ کم از کم دو طرفہ تو ضرور ہوتا ہے۔ سو یہی عہد انہوں نے حجاز کے حسینی قبیلے سے بھی کیا ہوا تھا۔ بس جو چیز دونوں عہد ناموں میں مشترک تھی، وہ ترکوں کی شکست اور جزیرہ نما عرب سے اخلاع۔

بہر کیف ترکوں کی ہار کے بعد فاتح طاقتوں (اور بعد میں امریکہ) کے ایماء اور امداد پر سعودیوں نے اپنے علاقائی حریفوں کو آخر کار شکست دے کر ۱۹۲۱ء میں صوبہ نجد پر اپنی عمل داری اور بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ عالمی جنگ کے اختتام، یہی ترکوں نے جان لیا کہ حجاز کا نظام حجاز کے سربراہ قبیلے کے سردار کے سپرد کرنے کے بعد وہ حجاز میں اپنی حکومت صرف فوجی طاقت کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ کسی حملے کی صورت میں خاک حجاز پر لہو بہانا اازم ہو جائے گا اور خدا نخواستہ کے اور مدینے میں گولی چلانی لازمی ہو جائے گی۔ یہ کیفیت ترک لمحن اور خصلت کے بالکل برعکس تھی۔ سو کچھ عرصہ سوچ بچار کے بعد حجاز کی ترک گورنر کا حکم ہوا تھا، اور ترکوں نے خانہ کعبہ کے گرد آخی طواف کر کے مسجد نبوی کی دہلیز کو آخری بار چوما تھا اور خاک حجاز سے ہمیشہ کے واسطے چلے گئے تھے۔ اب اہل نجد اور اہل حجاز دونوں جزیرہ نما عرب کے بادشاہت

کے خواہاں تھے اور دونوں کو انگریز کی حمایت حاصل تھی۔

اس سیاسی خلا کو سعودیوں نے پر کیا اور ۱۹۲۳ء میں کے پر اور ۱۹۲۵ء میں مدینے اور جدے پر قبضہ جمانے کے بعد اس نجدی قبیلے کے سردار نے ۱۹۲۶ء میں نجد و حجاز کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ یہاں سے حجاز پر سعودیوں کی حکومت کے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دورابھی تک جاری ہے۔ آخر یہ سعودی کون ہیں؟

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے جزیرہ نما عرب کے ایک مشرقی صوبے نجد سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ رسول پاک ﷺ کی وقتون میں جس قبیلے نے سب سے آخر میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر آپ ﷺ کے وصال مبارک کے فوراً بعد ہی جو قبیلہ اسلام سے منحرف ہو گیا تھا، وہ یہی سعودیوں کا قبیلہ تھا۔ آپ کو یہ بھی یاد ہو گا کہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ہی کی سرکوبی کے واسطے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ نجد کی طرف روانہ کیا تھا اور ایک جنگ میں شکست پانے کے بعد ان میں سے کچھ پھر سے اسلام لے آئے تھے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس علاقے میں ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کے آثار ایک ہنڈر کی صورت میں ابھی تک قائم ہیں۔ نسبیات کے جدید ماہرین کا کہنا ہے کہ مسیلمہ بن کذاب کا تعلق بھی اسی قبیلے کی ایک مرکزی شاخ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہیبت ناک غلط ہو، مگر حجاز میں اقتدار سنجا لئے کے بعد جو بدسلوکی انہوں نے رسول پاک ﷺ کی ذات سے وابستہ تاریخی، جمالياتی، روحانی، جسمانی اور معاشرتی نشانات کے ساتھی کی ہے۔ اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ علم نسبیات کے ماہرین کا یہ کہنا غلط نہیں ہے۔

پھر انھار ہویں صدی کے اوٹل میں ایک شخص محمد بن عبد الوہاب نے انہی میں سر اٹھایا تو ان کی بلا سوچ سمجھے کاٹنے والی تکوار کو اس کی تقریر کی سہار ملی اور اس کی تقریر کو جس پر بیکار دماغ کی بڑی سمجھے کر کوئی کان نہ دھرتا تھا، ان کی تکوار اور شاطرانہ خصلت کی سہار سے طاقت

حاصل ہوئی، حتیٰ کہ اٹھار ہو یہ صدی کے وسط تک محمد بن عبدالوہاب اور اس کے سعودی سر پرست کی اتنی ہمت ہوئی کہ ان دونوں نے مل کر عالم اسلام کے ہر بادشاہ اور فرماں روا کو خطوط بھیجے۔ ان خطوط میں اور باتوں کے بعد نیپ کے بند کے طور پر مندرجہ ذیل عبارت درج تھی:

اللہ ایک ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں مگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تعریف کرنا یا ان کی تعظیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔“ (نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَاكُ)

آج تک سعودی لہو کی خصلت یہی ہے۔

سو جاز پر قبضہ جمانے کے فوراً بعد ہی جو سب سے پہلا کام سعودیوں نے کیا تھا، وہ حجاز کے طول و عرض سے رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام کو حکمرانے کا تھا۔ مسجد نبوی، خانہ کعبہ کی مسجد اور اس کے علاوہ جہاں اور جہاں جس عمارت اور مسجد پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام نہایت ہی فن اور محبت سے کندہ تھا، اس کو نہایت ہی بھوت دے پن سے مٹا دیا گیا۔ ایمان، محبت، فن خطاطی اور دیگر فنون لطیفہ کے ان نادر نمونوں پر کہیں تارکوں پھیر دیا گیا اور ف کہیں ان پر پلستر تھپ دیا گیا۔ اکثر اوقات لو ہے کی چھینی اور ہتھوڑے کا استعمال بھی کیا گیا۔ اس بے مثال گستاخی کے نشانات آج تک حجاز کے طول و عرض میں اور خاص طور پر کعبہ کی پرانی مسجد اور مسجد نبوی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درود یوار پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ رسول پاک (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نام مٹانے کے بعد سعودیوں نے ایک با قاعدہ نظام کے تحت حیات طیبہ سے مسلک تقریباً ہر تاریخی، جمالیاتی، روحانی، جسمانی اور معاشرتی نشان کو اپنی ذہنی قلت اور قلیل تر عقیدے کا ہدف بنایا۔ جنت معلیٰ اور جنت البقیع کے قبرستان کہ جن کی بھر بھری خاک میں حضرت عبدالمطلب، حضرت ابو طالب، ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہن، آپ کی صاحزادیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہن، آپ کے صاحزادگان اور خانوادہ رسول کے دیگر افراد، اصحاب کرام اور ان کے پورے پورے خاندان، مشائخ و صوفیائے کرام، نامور ان

اسلام اور دو جہانوں کی چہار سمتوں سے محبت اور ایمان کی خاطر آئے ہوئے ان گنت گنام مسلمان سکون آور شاستری سے سوتے تھے، لو ہے کے مشینی بل چلا کر کھود دا لے گئے اور پھر پیشیا پھرو اکر برابر کروا دیئے گئے۔ بعد میں جنت البقیع کے سامنے سڑک کے ساتھ قائم شہدائے کرام کے مزار سڑک کو چوڑا کروانے کی نذر ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کے مزار اور تابوت کو ایک بازار کی توسعی کے دوران راتوں رات غائب کروا دیا گیا۔ نہ ابو طالب کا محلہ رہانہ ورقہ بن نوفل کی دہلیز، نہ ام ہانی کا آنگن رہا، اور نہ ہی بنوار قم کی جگہ کرائے کی موڑ گاڑیوں کا اڈہ ہے اور رہا ام ہانی کا گھر کہ جس کے آنگن میں دو وقت مل کر ایک ہوئے تھے، تو وہ مسجد حرام کی ”توسعی“ کے دوران مٹ کر بے نشان ہو چکا ہے۔ جب حضرت عبدالالمطلب کی قبر ہی نہ رہی، تو اس تک جاتا وہ راستہ بھی نہ رہا کہ جس پر نو برس کا ایک بچہ آخری بار کھل کر روایا تھا اور نہ ہی وہ پگڈہ عذی رہی کہ جس پر ایک ضعیف انسان اپنی چادر میں ایک نوزائیدہ بھے کو لپیٹ کر لے چلا تھا۔ ہاں! اس بے وضع عمارت کے سامنے میں جو ابو طالب کے محلے کو کھود کر بنائی گئی ہے۔ ایک گھر اور اس کا وہ شمالی کمرہ کہ جس میں چہار آئینوں کی اوٹ میں کبھی کبھار چہار سمتیں ملی تھیں، ابھی تک بمشکل موجود ہے۔ مگر اس کمرے میں عرصے سے سفیدی نہیں ہوئی ہے نہیں تیرے چاند کے بارہویں دن معصوم بچے تلاوت کرنے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کمرے کے شمال کی جانب ایک روشن دان ضرور موجود ہے، مگر اس سے اب شمال کا ستارہ نہیں دیکھ سکتے کہ متعدد منزلوں کی وہ بد وضع عمارت کہ جو شائید کہیں اور نہ بن سکتی تھی، راستے میں حائل ہے اور رہے پرندے تو ان کے آزاد کرنے کا رواج تو اس شہر میں کبھی کا ختم ہو چکا ہے۔

اور ہاں اگر آپ اس گھر میں جس میں رحمۃ اللعائیں ﷺ کا ظہور ہوا تھا، وہ نوفل شکرانے کے نزدیک اس عظیم ترین رحمت پر اللہ کا شکردا کرنا شرک ہے۔
یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر اور اس کمرے کے بارے میں بھی

سن لیجئے کہ جہاں اعتماد کا ایک بنیادی لمحہ گز راتھا۔ وہ کمرہ اور گھر بھی نصف صدی سے حافظ قرآن رنگ سازوں کا انتظار کرتے کرتے اب ایک صرافہ بازار سے گھر چکے ہیں۔

ہجرت کے راستے کا نشان تک مت چکا ہے۔ نئی حکومت نے مکے سے مدینے تک جانے کا نیا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ راستہ مکے سے مقام بدر تک سمندر کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور وہی ہے کہ جس سے ابوسفیان، شکر اسلام فی روائی کی خبر سن کر اپنے قافلے کو بچا کر مکے کی جانب فرار ہو گیا تھا۔

مدینے پہنچتے ہی انسان مسجد قبا کا رخ کرتا ہے کہ جس کے سامنے والے احاطے میں وہ نہایت قدیم کنوں تھا کہ جس کے پانی نے آپ ﷺ کا رخ مبارک دیکھا تھا، مگر چند برس ہوئے اس کنوں میں کوئی پھر کی بڑی بڑی سلیں رکھ کر بند کیا جا چکا ہے۔ استفسار پر نہایت خشکی کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ مشینی پمپ ایجاد ہو چکے ہیں، اس واسطے اب اس کنوں میں کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ جب شکست و ریخت کا یہ وحشت ناک عمل شروع ہوا تھا، تو سردارہ قبیلے کے سردار نے ترکوں کی بنائی ہوئی گنبد خضری والی مسجد نبوی ﷺ کو گنبد خضری سمیت منہدم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پھر بہت بڑی بڑی اور اپنے وقتوں کی طاقتور ترین مشینیں منگوائی گئی تھیں اور پھر ایک نکڑ کے ستون سے شروعات کی گئی تھیں۔ دو ماہ تک یہ مشینیں اپنی پوری طاقت سے اس ایک ستون سے نکلا کر اس کو گرانے یا توڑنے کی کوشش کرتی رہی تھیں، مگر یہ ستون ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سینہ ہلا تھا۔ آخر اس کی جزوں کو باوضوح حافظ قرآن ہنرمندوں کے ایمان، عشق اور نیت کے سیے نے تمام ہوا تھا، یہ کیسے اپنی جگہ سے ہلتا۔ جب طاقتور ترین مشینوں کی دو ماہ تک مسلسل کوشش کے باوجود ایک ستون بھی اپنی جگہ سے ایک انج نہ مل سکا تھا، تو مسجد نبوی کو منہدم کرنیکی کوشش طوعاً و کرہاروک دی گئی تھی۔ مسجد نبوی ﷺ کے اس ستون پر اس عمل کے نشانات آج تک موجود ہیں۔

سواب کس کس دکھ کا بیان کرو؟ کسی نقش اول کو عقیدے کے قلکت نے مٹایا، تو

کسی کو دل کی قلت نے، اور جونقوش ان دونوں کی گرفت میں نہ آ سکے، ان کو بے اعتنائی اور جمالیاتی حس کے فقدان نے۔ اگر کبھی بر سراقدار لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھو، تو اول تو اس پر صغیر کے محبت کے مارے مسلمانوں کو اس لاٹق ہی نہیں سمجھا جاتا کہ ان کو کوئی جواب دیا جائے۔ اگر کوئی مجبور کرے، تو پھر دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یعنی ”توسیع“ اور ”شرک“۔ کیا ”توسیع“، کسی اور انداز، حوصلے اور قرینے کے ساتھ نہ کی جاسکتی تھی کہ جس طرح ترکوں نے کی؟ اور کیا ”شرک“ کو مثانے کی طریقہ صرف یہی تھا کہ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باوفاہدیوں کے نشان کو مٹا دیا جائے؟؟؟

شرک کی حقیقت

اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ تھہراو۔ (سورۃ النساء: ۳۶/۳)

شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رقم فرماتے ہیں۔ ”وبالجملہ شرک سے قسم است در وجود در خالقیت و در عبادت (اشعة اللمعات جلد اصفحہ ۲۷)

خلاصہ مطلب یہ ہے کہ شرک تین طرح پر ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو واجب الوجود تھہرائے دوسرا یہ کہ کسی اور کو اس کے سوا حقیقتاً خالق جانے یا کہے، تیسرا یہ کہ عبادت میں غیر خدا کی عبادت کرے یا اس کو مستحق عبادت سمجھے، اسلام میں شرک کی صرف تین صورتیں ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی ثابت فرماتے ہیں۔ ۱۔ شرک فی الذات یعنی عالم کے مستقل خالق و مالک دو مانے جائیں جیسا کہ جوئی خیر اور شرک و مستقل خلق مانتے ہیں۔ ۲۔ شرک فی الصفات یعنی بعض بندوں کا خدا سے وہ رشتہ مانا جائے جو ہم جنسیت چاہتا ہے۔ جیسا بیٹھا ہونا، زوجہ ہونا، بھائی، بھتیجا، بھانجوا وغیرہ ہونا اور مشرکین عرب فرشتوں و ستاروں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ۳۔ شرک فی الافعال یعنی کہ اللہ کے بعض بندوں کو رب تعالیٰ کا معاون و مددگار مانا جائے کہ رب تعالیٰ ان کے بغیر کام چلا سکتا ہی نہیں جیسا کہ بعض مشرکین عرب اپنے بتوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے۔

(تفسیر نعیمی ملخصا، پ ۵: ص ۱۳۹)

درج بالا بحث کی روشنی میں غور کیجئے کہ آج تک کسی مسلمان نے کسی ولی، غوث، قطب یا نبی و رسول کے متعلق خواہ جناب رسالت مآب ﷺ کی ذات اقدس ہی ہو، ایسا اعتقاد رکھا ہے؟ اگر نہیں اور یقیناً نہیں تو پھر وہ صاحبان جو مسلمانوں کو مشرک ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کرتے ہیں اور وہ تمام آیات جو مشرکین مکہ اور کفار عرب کے حق میں نازل ہوئیں، مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

خارجیوں اور ملحدوں کی متعلق فرماتے تھے ”ہو شرار خلق اللہ و قال انہم انطلقو انی آیات نذلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین“۔ (بخاری، ۱۰۲۳، ۲)

ترجمہ: وہ اللہ کی بدترین مخلوق ہیں نیز فرمایا کہ یہ لوگ ان آیات کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئی ہیں، مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ لہذا خاکسار ایسے مسلمان نمادین فروش جو درحقیقت خارجیوں اور ملحدوں کی ترجمانی کرنے میں پیش پیش نظر آتے ہیں کہ خدمت میں عرض کرتا ہے کہ کیا انہیں خدا کا خوف نہیں ہے؟ وہ ذریں کہ کہیں ان کا شمال سحر فون الکرم عن موافعہ کے زمرہ میں نہ ہو جبکہ سید المرسلین، غم خوار امت ﷺ اپنی گنہگار امت کے متعلق واشگاف میں فرماتے ہیں ”اللہ کی قسم میں اپنے بعد تم پر یہ خوف نہیں کرتا کہ تم شرک کرنے لگ جاؤ گے“، اصل حدیث ملاحظہ فرمائیں: ”عن عقبة بن عامر ان النبي ﷺ خرج يوماً فصلى على اهل أحد صلوته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم و انا شهيد عليكم و اني والله لا نظر الى حوضى الان و اني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض و اني والله ما اخاف عليكم ان تشر کو ابعدی ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها“

(بخاری جلد ۱ صفحہ ۵۰۸، ۱۷۹ و بخاری جلد ۲ صفحہ ۵۷۸، ۵۷۵، جلد ۲ صفحہ ۵۸۵، جلد ۲ صفحہ ۹۵۱، جلد ۲ صفحہ ۹۷۵، مسلم جلد ۲ صفحہ ۲۵۰، مشکوٰۃ صفحہ ۵۳۷، فتح الباری جلد ۳ صفحہ ۲۶۹، جلد ۶ صفحہ ۹۷۵، جلد ۷ صفحہ ۳۲۲، ۳۲۰، جلد ۲۳ صفحہ ۳۸۰، ۳۰، ۳۹، جلد ۲۳ فی ۱۲۳، ارشاد الساری جلد ۲ صفحہ ۵۸۷، جلد ۷ صفحہ ۳۹۱، ۳۱۲، ۵۲ صفحہ ۲۲۵، ۲۲۳، ۳۲۲؛ الکاشف شرح الطہی جلد ۱۱ صفحہ ۳۲۰ جلد ۶ صفحہ ۵۲، ۳۱۲، ۳۹۱، ۲۲۵، ۲۲۳، ۳۲۲؛ الکاشف شرح الطہی جلد ۱۱ صفحہ ۲۲۷، ۱۷۱، مرقاۃ جلد ۱۱ صفحہ ۲۳۷، ۱۷۱ جلد ۲ صفحہ ۲۰۵)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں کریمہ ﷺ ایک دن (مدینہ سے) باہر نکلے اور شہداء احمد پر نماز پڑھی، جس طرح اموات پر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر منبر کی طرف جلوہ فرمائے اور فرمایا میں تمہارا پیش رو ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور میں اللہ کی قسم

اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنے بعد تم پر یہ خوف نہیں کرتا کہ تم شرک کرنے لگو گے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے۔

قارئین کرام! حضور ﷺ نے اس حدیث میں یہ تصریح فرمائی ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی جس سے واضح ہوا کہ جو مولوی صاحبان خواہ مخواہ مسلمانوں پر آئے دن شرک کے فتوے جڑتے رہتے ہیں اور یہ الا پتے رہتے ہیں کہ مسلمانوں میں شرک بہت پھیل گیا ہے اور اصل توحید نایاب ہو گئی ہے وہ بظاہر تو میری اور آپ کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں مگر دراصل یہ لوگ حضور نبی کریم ﷺ کی اس پیشین گوئی کو سچانہ سمجھ کر درحقیقت دشمنی اور بد عقیدگی کا ثبوت دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں انہیں صحیح العقیدہ سے مسلمان نظر آتا ہے تو وہ اسے شرک کہنے سے باز نہیں آتے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک حدیث نبوی کی شرح فرماتے ہوئے بیان کی ہے کہ ایک مسلمان کے متعلق یہ باور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ خدا کا شریک نہ ہے اور ہاں، جہاں کہیں مسلمانوں کو شرک سے روکا گیا ہے، وہاں اس سے مراد شرک خفی ہے یعنی عبادت میں ریاء کاری اور ذکھلاؤ۔

معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا ہی شرک کرنے یا شریک نہ ہونے کے منافی ہے، جس کی تائید و توثیق جناب رسول کریم ﷺ اور امت محمد یہ کے نامور شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تم پر اس شخص کا ڈر ہے جو قرآن پڑھے گا جب اس پر قرآن کی رونق آجائے گی اور اسلام کی چادر اس نے اوڑھ لی ہو گی تو اسے اللہ جدھر چاہے گا، بہ کادے گا، وہ اسلام کی چادر

سے صاف نکل جائے گا اور اسے پس پشت ڈال دے گا اور اپنے پڑوی پر تکوار چلانا شروع کر دے گا اور اسے شرک سے متعین و منسوب کر دے گا۔ (یعنی شرک کا فتویٰ لگائے گا)، (حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں) میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی ﷺ! شرک کا زیادہ حق دار کون ہے؟ شرک کی تہمت لگایا ہوا یا شرک کی تہمت لگانے والا؟ آپ ﷺ نے فرمایا شرک کی تہمت لگانے والا شرک کا زیادہ حق دار ہے۔ (یہ سند جید ہے) آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں انبیاء، صد یقین، شہداء اور صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔



